

فائدہ شریعت پر اپنی توجیہت کی اور یعنی عقیقی کتاب

اسلامی شریعت

علم اور عقیلیت کی میزان میں

اسلامی شریعت کے بکر تریے
اور معقولیت کے ساتھ فکر کے دلائل

مولانا محمد شہباد الدین ندوی

مجلس نشر ریات اسلام

ا۔ کے ۲۔ ناظم آباد، کراچی، پا

فلسفہ شریعت پر اپنی نزیعت کی الیگن تحقیقی کتاب

islami shariat

علم اور عقل کی میزان میں

-
- ★ اسلامی شریعت کی برتری اور معقولیت کے سائنس فک دلائل
 - ★ اسلامی شریعت کی حقیقت و ماہیت پر نئی روشنی
 - ★ اسلامی شریعت کی ابدیت و عالمگیری کے حیران کن پہلو
 - ★ اور بعض شہمات و اعتراضات کا مسکت تحقیقی جواب
-

از
مولانا محمد شہاب الدین ندوی

محلب نشریات اسلام - نئے - ۳ - نہم آباد میشن ناظم آباد مکاری ۱۹۷۴ء

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحق فضل رفیق ندوی محفوظ ہیں۔

نام کتاب	اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں
مصنف	مولانا محمد شہاب الدین ندوی
تعداد	ایک ہزار
کتابت	محمد شیرازیں بگوری
مطبوعہ	شیخلہ پرنٹ پرنس کراچی

طابع و ناشر
فضل رفیق ندوی

محلہ تحریاتِ اسلام
ا۔ کے۔ ۳ ناظم آباد، کراچی (پ)

(بتعاون و اشتراك: فرقانیہ اکیڈمی بنگلور انڈیا)

خدا کی دین و شریعت

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ يُولَّهُ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ هُوَ ذَلِيلُ الدِّينِ الْقَيْمُونُ مُحَمَّدٌ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَفَرُ أُسَمَّى كَيْدَهُ كَيْدَهُ بَنْدَگَیِ کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے۔

(یوسف : ۳۰)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الظَّالِمِينَ لَا يَعْلَمُونَ : پھر ہم نے آپ کو ایسی شریعت پر مقرر کر دیا ہے جو (ہمارے) حکم سے ہے۔ ہذا آپ اسی کی پیروری کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات پر مست چلئے جو (صحیح) علم ہمیں رکھتے۔

(جاشیہ : ۱۸)

أَفَغَيَرَ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْعِصْبَ مُفَضَّلًا : تو کیا میں انش کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے ہمارے پاس لیک واضع کتاب صحیح دی ہے؟

(انعام : ۱۱۳)

وَنَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ : اور تیرے رب کی بات سچائی اور اعتدال کے حافظہ سے پوری ہوئی (خدائی قانون کے یہ دو اوصاف ہر دو میں پورے ہوتے رہتے ہیں لہذا) اس کی باقاعدہ کوئی بدلتی نہیں سکتا۔

(انعام : ۱۱۵)

الرَّقْدِ كِتَابٌ أَخْكَمَتْ أَيْتَهُ شَمَّةٌ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكْمِيْنِ خَيْرٍ : یہ ایسی کتاب ہے جس کی آئیں (علی اعتبار سے) مضبوط و ستمکم کی گئی ہیں۔ پھر ایک حکمت والے اور باخبر کی جانب سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔

(ھود : ۱)

فہرستِ مضمایں

نمبر شار	مضمون	صفو
۱	فہرستِ مضمایں	۳
۲	مقدمہ	۸
۳	۱۔ کیا اسلامی شریعت میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟	۱۸
۴	۲۔ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	۱۹
۵	۳۔ شریعت میں تبدیلی کا حق خود رسول کو بھی نہیں تھا	۲۰
۶	۴۔ اچھا دکن سائل میں؟	۲۱
۷	۵۔ قرآن اور حدیث سے اعراض کا انعام	۲۲
۸	۶۔ ائمہ و مجتہدین کی اتباع	۲۳
۹	۷۔ علماء کی اطاعت مسروط ہے	۲۴
۱۰	۸۔ اچھا دکن کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے	۲۵
۱۱	۹۔ اجلاعِ امت قرآن کی نظریں	۲۶
۱۲	۱۰۔ فقر اسلامی کی حیثیت	۲۷
۱۳	۱۱۔ نئے دخوبیداروں کی بیاناتی غلطی	۲۸
۱۴	۱۲۔ ارتقی پسندوں اور فرقہ پرستوں کا گھنچہ جوڑ	
۱۵	۱۳۔ مطالبے کی عدم معقولیت	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۰	۱۰۔ اسلامی شریعت ناقابل تغیر کیوں ہے؟ اسلامی شریعت کی برتری اور عقولیت کے دلائل	۱۲
۳۱	قانون صرف فُدا ہی کا کیوں؟ احکام شریعت کا احاطہ	۱۳
۳۲	توانین شریعت ناقابل تغیر کیوں؟	۱۴
۳۳	ایک اشکال اور اُس کا جواب	۱۵
۳۴	غُدائی قافزون کا معبڑہ	۱۶
۳۵	اعراض کرنے والوں کی دو قسمیں	۱۷
۳۶	کیا شریعت فرسودہ ہو چکی ہے؟	۱۸
۳۷	شریعت اور قانون کا بنیادی فرق	۱۹
۳۸	جدید قانون شریعت سے پچھے	۲۰
۳۹	اسلامی شریعت کے امتیازی خصائص	۲۱
۴۰	شریعت کے ممتاز ہونے کے دلائل	۲۲
۴۱	نظریہ مساوات	۲۳
۴۲	مرد اور عورت کی برابری کا نظریہ	۲۴
۴۳	نظریہ آزادی	۲۵
۴۴	آزادی فکر	۲۶
۴۵	آزادی عقیدہ	۲۷
۴۶	آزادی رائے	۲۸

نمبر شمار	مضمون	صفر
۳۱	طلاق کا نظریہ	۳۸
۳۲	طلاق کی مقبولیت	۵۰
۳۳	تعدد ازدواج کا نظریہ	۵۲
۳۴	تعدد ازدواج اور عصر حاضر	۵۳
۳۵	حاصل بحث	۵۵
س۔ اسلامی شریعت کی حقیقت و ماہیت اور اس کے چند امتیازی خصائص		
۳۶	دین و شریعت کا فرق	۴۰
۳۷	اصل قانون ساز اللہ ہے	۶۲
۳۸	ہر دور میں صرف حکم خداوندی کا اتباع	۶۳
۳۹	نظرت و شریعت کی وحدت	۶۵
۴۰	اسلامی شریعت کی معقولیت	۶۶
۴۱	اسلامی شریعت کا معجزہ	۶۷
۴۲	ایک حیات بخش قانون	۷۳
۴۳	علم و حکمت کا منظہ ہرہ	۶۲
۴۴	ایک جامع اور اعجیازی آئیت	۶۶
۴۵	ازدواجی زندگی میں محسن سلوک کی تاکید	۷۸
۴۶	اسلامی شریعت کے چند امتیازی خصائص	۶۹
۴۷	عائلی قوانین کا تعلق دین و شریعت سے	۸۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۰	مسلمانوں پر ایک نامتعقول الزام	۳۸
۹۲	۳۔ اجتہاد اور اُس کے نئے آفاق پندرہویں صدی کی ایک تجدیدی ضرورت	۳۹
۹۴	شریعت اور فقہ کا تعلق قیاس و اجتہاد مذموم کب ہوتا ہے؟	۵۰
۹۶	فہم نصوص میں اختلاف ہو سکتا ہے	۵۱
۹۸	قیاس و اجتہاد کی حقیقت	۵۲
۱۰۴	احکام شریعت میزان عقل کے مطابق	۵۳
۱۰۴	اسلام میں قیاس کا مقام	۵۴
۱۰۷	قیاس فاسد تمام گراہیوں کی جڑ	۵۵
۱۰۸	قیاس فاسد اور مخالف شریعت تحریکیں	۵۶
۱۱۰	قیاس فاسد کا بانی ابليس ہے	۵۷
۱۱۱	شریعت اور فقہ کا فرق	۵۸
۱۱۲	فقہی اختلافات کی حقیقت	۵۹
۱۱۷	فقہی اختلاف کے اسباب	۶۰
۱۱۸	اجتہاد کی ضرورت اور اُس کی شرائط	۶۱
۱۲۱	اجتہاد کے نئے آفاق	۶۲
۱۲۳	ایک اجتہاد بورڈ کا قیام ضروری	۶۳
۱۲۴	وقت کی پکار	۶۴

مقدمہ

اسلامی شریعت کا تجزہ اور جدید علمی پہلیج

دنیا کے مختلف مذاہب اور اُن کے قوانین کے تفصیلی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ قوانین میں سوائے اسلامی شریعت کے کوئی دوسرا قانون ایسا موجود نہیں ہے جو پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبودی اور اُس کی ہدایت و رہنمائی کا دعویٰ کر سکتا ہو۔ اور یہ قانون، جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محيط ہے، نہ صرف معتدل و متوازن ہے بلکہ وہ حدود بہ معقول اور حکمت و مصلحت سے بھروسہ ہے، جو خدا نے رحمان کی رحمانیت اور نوع انسانی پر اُس کی رحمت اور عدل گسترشی کا بھی ظہر ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت کے تمام احکام نہ صرف معقول اور مطابق عقل ہیں، بلکہ وہ حکم علی بنا یادوں پر بھی قائم ہیں، جس کے باعث وہ کامل، برتر اور داعیٰ قانون کے درجے پر فائز نظر آتے ہیں اور اسی بنا پر خدا کی قانون میں تبدیلی بخال ہے۔ مگر ان تمام باتوں کا صرف زبانی جمع خرچ یا مجرد دعویٰ کر دینا موجودہ دور اور اُس کے تقاضوں کے لحاظ سے ہرگز کافی نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی شریعت کی عملیت و برتری ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ عالم انسانی پر علیٰ و عقلی دلائل کی روشنی میں اسلامی شریعت کی ضرورت داہیت

اور اُس کی حکمتیں اور مصلحتیں کو اجاگر کیا جائے اور صحیح اسلامی اقدار (VALUES) کا تعارف کرایا جائے، جو آج ہمارے عمل کی کمزوری کی بنا پر پس پشت چلے گئے ہیں۔

اور پھر یہ بھی ایک واقع ہے کہ موجودہ دو دین قرآن مجید ہی وہ واحد صحیفہ رب انبی ہے جس نے دینی معاملات اور شرعی احکام میں غور و فکر کر کے ان کی عقلی حکمتیں اور مصلحتیں معلوم کرنے پر بہت زیادہ نور دیا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ ایک طرف اسلامی شریعت کی عقولیت ثابت ہو تو دوسری طرف فرعی انسانی پر اس کی عظمت و برتری کے نقوش بھی واضح ہو سکیں۔ اس حیثیت سے دین میں عقل و دانش کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں فقط علم (اور اُس کے مشتقات) ۸۸، مرتبہ، عقل، ۵۰، مرتبہ، فکر ۱۴ مرتبہ اور فرقہ (بھجو جھہ) ۲۱ مرتبہ آئے ہیں۔ اور ان مقامات پر انسان کو جس طرح کائنات کی مختلف اشیاء میں غور و خوض کر کے ایک خالق برتری کی دعوت دی گئی کے وجود اور اُس کی ربویت کا حال دریافت کرنے یا اُس کی حکمت تخلیق معلوم کرنے کی دعوت دی گئی ہے، بالکل اسی طرح شرعی احکام یا خدا کے حکموں میں بھی غور و خوض کر کے ان کی علمی و علمی حکمتیں اور مصلحتیں اٹھ کار کرنے پر بھی ابھار آگیا ہے۔ مثلاً متعبد مقامات پر وہ شرعی امور کے بیان کے بعد ہتا ہے :

كَذِلِكَ يَبْيَّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ (بقرہ : ۱۳۷)

اوکیسیں پر وہ شرعی احکام میں غور و فکر کی دعوت اس طرح دیتا ہے :

كَذِلِكَ يَبْيَّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَرَّغُونَ : اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لئے

احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ (بقرہ : ۲۱۹)

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون ایک پڑا ز حکمت اور معقول و مدلل قانون ہے۔ ورنہ اسلام اس میں غور و خوض کی اجازت نہ دیتا جیسا کہ اس سلسلے میں دیگر ایمان اور دوسری شریعتوں کا حال ہے، جن میں عقل یا غور و فکر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نیز اس کے علاوہ اسلامی قوانین کی اور بھی بہت سی خصوصیتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں :

- ۱- اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ (ماٹہ : ۳)
- ۲- وہ ہدایت و رحمت سے بھر پور ہے۔ (اعراف : ۵۲)
- ۳- وہ ایک حیات پرورد ضابطہ ہے۔ (انفال : ۲۲)
- ۴- وہ معقول یا قابل تحسین امور (معروف) پر مشتمل ہے۔ (اعراف : ۱۵۴)
- ۵- وہ نامعقول باتوں یا امورِ ناشناس (مُنکر) سے خالی ہے۔ (اعراف : ۱۵۴)
- ۶- وہ پاکیزہ چیزوں (طیبات) کا مجموعہ ہے۔ (اعراف : ۱۵۴)
- ۷- وہ ناپاک چیزوں (خبائش) سے عاری ہے۔ (اعراف : ۱۵۴)
- ۸- وہ معتدل و متوسط ضوابط (عدل) کا حامل ہے۔ (نحل : ۹۰)
- ۹- اُس کے ضوابط آسان ہیں۔ (بقرہ : ۱۸۵)
- ۱۰- اسلامی قانون میں کوئی "حرج" یعنی تنگ نہیں ہے۔ (ماٹہ : ۱۶، مج : ۴۸)
- ۱۱- وہ حکمت و مصلحت سے بھر پور ہے۔ (بنی اسرائیل : ۳۹)

اس لحاظ سے اسلامی شریعت یا قانون علیٰ و عقلي خوبیوں اور حکمتوں سے بھر پور ہونے کی
بانی ایک خدائی معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ غیر مسلم تو در کنار آج خود مسلمان بھی اسلام
اور اسلامی قانون کی ان خوبیوں سے نادافع ہیں۔ بلکہ انہیں یہی نہیں معلوم کر آیا اسلامی قانون میں
الیں خوبیاں ہو یہی سکتی ہیں! لہذا صاف ہات ہے کہ جب وہ خود ہی نہیں جانتے کہ ہمارا دین کیا ہے
اور ہمارا قانون کیا ہے تو وہ دوسروں کو لپٹنے دین و شریعت کی خوبیاں کیا غافک سمجھا سکتیں گے؟ یہی وجہ
ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمان نہ صرف ذلیل کئے جا رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے قانون کو ایک ظالہ
اور جا برانہ قانون قرار دے کر اسے بدلتے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ شاہ بانڈ کیسیں و پر کیساں ہوں کوڑ
کی تحریکیں سب اسی کا مظاہرہ ہیں۔ ان جارحانہ تحریکوں کے باعث آج ہندوستانی مسلمان اس درجہ
بدحواس اور سراسرہ ہو گئے ہیں کہ وہ اب بالکل دفاعی لائن اور دفاعی پوزیشن میں آگئے ہیں۔ اور اپنے
چکاؤ کا کوئی راستہ سوائے چند "ستوری تختنات" کے مطابق کے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ ان کی انگوہوں

کہ ماننے انہیں اس اچھا یا ہو انظر آتا ہے۔

واقعیت ہے کہ مسلمان جب تک پیامِ الٰہی کو پوری طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے وہ اسی طرح ذلیل دخوار ہوتے رہیں گے۔ اور ان پر بلاش اور مصیبتوں بھی اسی طرح نازل ہوتی رہیں گی حقیقت یہ ہے کہ غیروں سے کیا گلہ آج خود مسلمان ہی خدا تعالیٰ قانون سے بالکل اجنی سے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ تو وہ نظر یا حق اعتماد سے اس قانون اور اُس کی خوبیوں سے واقف ہیں اور نہ وہ عمل اعتماد سے ہی اس پر عامل ہیں۔ لہذا مخالفانہ پروپگنڈے سے جس طرح غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح خود مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ لہذا وہ دفاع کریں تو کیا اور کیونکر؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ "تحفظات" کی "بھیک" مانگنے پر مجبور ہیں۔

اگر مسلمانوں نے اس طک میں اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کا صحیح معنی میں تعارف کر لیا ہوتا اور خدائی مٹھا کے مطابق اسلامی قوانین کی خوبیوں کو علمی و عقلی دلائل کی روشنی میں جاگر کیا ہوتا تو کچھ یہ فوتبت نہ آتی۔ لہذا اسلامی شریعت و قانون کے سلسلے میں یہ مخالفانہ و معاندانہ تحریکیں زیادہ تر اسلامی تعلیمات سے نہ واقعیت یا پھر سیاسی رقبابت کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے اس مخالفانہ طوفان کے نفع اور اس کے دھانے کو موڑنے کے لئے ہیں آج بھی خدائی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحیح لاش اور صحیح رعنی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

آج شاہ باؤکیس کے بعد فضا اس کے لئے بہت بڑی حد تک سازگار ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج بہت سے پڑھتے لکھنے ہندو بھی اسلامی قانون اور اُس کی حقیقت کو کھلے ذہن و دماغ کے ساتھ سمجھنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ لہذا اس موقع کو غنیمت بلکہ ایک بہت بڑی خدائی و غلبی امداد تصور کرنے والے اب مسلمانوں کو اس میدان میں نئے سرے سے اور نئی عزیمت کے ساتھ کام کرنا چاہئے۔ تاکہ اسلامی قانون کی برتری کا سک੍ریپت قائم کیا جاسکے۔ اور ضرورت اب اس بات کی ہے کہ علمی و عقلی دلائل سے مزتن نئے قسم کا لٹریچر خاص کر انگریزی زبان میں تیار کیا جائے۔ مگر اس سلسلے میں ایک شکل یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے سوچنے کا انداز اتنا سطحی ہو گیا ہے کہ اب شاہ باؤکیس کے فیصل ہو جانے کے بعد وہ اس کی ضرورت

اور اہمیت کو محسوں ہی نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ان کے سروں پر کیساں ہوں کوڑ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہیں ہوش میں لارہی ہے۔ گویا کہ ان کا کام حضر سیاسی قسم کے چند منلاہرے کرنا تھا اور بس۔ اب جبکے مسلمانوں کے پرستل لا (اسلامی قانون) میں عدم مداخلت کا ایک شیعی مسلم خواتین (تحفظ حقوق باعد طلاق) ایک ۱۹۸۶ء بن چکا ہے تو اب گویا کہ اس قسم کا علمی کام ان کی نظر میں ایک تفسیع اوقات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس غلط انداز فکر کو بدلتے اور معقول و حقیقت پسندانہ رویہ اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ ورنہ پھر آنے والا وقت ہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بلکہ آنے والے نئے نئے نکری طوفانوں کا اندازہ کرتے ہوئے ہیں قبل از وقت ہی جو کتنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں پھر سے ہم پر گھیرا دال کر شب خون مار دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "ایک مسلمان ایک بیل سے دو مرتبہ ڈسانہیں جا سکتا" اس اعتبار سے پہلی مرتبہ غفلت و بے خبری تو معاف ہو سکتی ہے مگر دوبارہ غفلت و بے خبری ناقابل معافی ہوگی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم فود کو بدیں اور قانون فطرت اور قانون خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کریں جن پر اقوام عالم کے عروج وزوال کا مار ہے۔ حضر تحققات کے بل بوتے پر کوئی قوم اور کوئی ملت زندہ نہیں رکھتی۔

غرض اگر آج ہم کو ہندوستان میں سمجھیت ایک ملت زندہ رہنا ہے تو پھر ہمیں پی اجتماعی زندگی کے تحفظ کے لئے ہر طرح کے جتن کرنے پڑیں گے۔ اور ان میں سے ایک اہم ترین اقدام یہ ہے کہ اب ہم اپنے دین و مشریعیت کی معقولیت کا غیر مسلموں کو قائل کرائیں اور ان کے سامنے اسلامی تہذیب اور اسلامی قانون کے امتیازی خصائص پیش کریں جن کی بنیاد پر اسلامی تہذیب و معاشرت و گر ادیان، دیگر تہذیبوں اور دیگر تمام قوانین سے ممتاز نظر آسکے۔ اور جب تک یہ کام عقلی و علمی بنیاد پر پورا نہ کیا جائے نوع انسانی عقلی اعتبار سے محنت پوری نہیں ہو سکتی۔ حالاً کہ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف فرماتا ہے :

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ : کہہ دو کہ اللہ ہی کی محنت غالب ہے گی۔ (انعام: ۱۳۹)

اب ظاہر ہے کہ اللہ کی اس محنت کو غالب کرنا اللہ کے فرمانبرداروں ہی کا کام ہے۔ لہذا

اگر ہم اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ہم اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائیں گے کیونکہ اب دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ بلکہ اب علماء ہی انبیاء کے اصل وارث ہیں اور انہی کو یہ فرض انجام دینا ہے۔ مگر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بھتی بلکہ پہیشہ دو ہاتھوں سے بھتی ہے۔ لہذا قلت کے صاحب استطاعت لوگوں کو اس سلسلے میں علماء اور اہل قلم کا ساتھ دینا چاہئے تاکہ وہ اپنی خدمت اریوں کو تکمیل ادا کر سکیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اہل بصیرت علماء اور اہل قلم حضرات کی ذمہ داریاں دوچند ہو گئی ہیں۔ لہذا اب انہیں پورے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر سیدان میں آنا چاہئے تاکہ اسلامی شریعت کی عظیت و برتری کا سکھ وہ پورے دلائل کی روشنی میں نوع انسانی کے ذہنوں میں بھاگیں تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہ سکے کہ اسلامی قوانین غیر موقول یا غیر متوازن ہیں۔

لَيَقُلَّكُمْ مَنْ هَلَّكَ عَنِ الْيَقِينِ وَلَيَحْمِلُوكُمْ مَنْ تَحْمَلَ عَنْ بَيِّنَاتِهِ : تاک جو ہلاک ہو وہ دلیل (دیکھ لینے) کے بعد ہلاک ہوا اور جزو زندہ رہے وہ دلیل (دیکھ لینے) کے بعد رزاں نہ رہے۔ (انفال: ۲۶)

یہ عصر جدید کی ایک اہم ترین ضرورت بلکہ ایک تجدیدی نوعیت کا کام ہے، جو تحقیق و تفہیش، سخت محنت اور جانشناکی کا طالب ہے، کیونکہ اس سلسلے میں دُنیا بھر کے مختلف قوانین اور مختلف تہذیبوں کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون اور جدید حقائق سے بھی مدد لینے کی شدید ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک اسلامی قوانین کا دیگر قوانین کے ساتھ تقابی مطالعہ نہیں کیا جاتا اسلامی قوانین کی خوبیاں پوری طرح اجڑگر نہیں ہو سکتیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت اپنے اعادل و توازن اور اپنی معقولیت کی بنابر جرود کے لئے ایک دائمی اور ناقابل تغیر قانون ہے، جو ایک خدائی مجرمہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس مجرمے کی حقیقت موجودہ عقلیت پسند دوڑیں جب تک معموقوں میں ادوں پر نوع انسانی پر واضح نہیں ہو جاتی وہ اس کو ہرگز ایک برقرار قانون تسلیم نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ وجودہ دور کا سب سے بڑا چیزیں اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی شریعت

کی تغییب و تشریع اور دیگر قوانین کے ذریعہ اُس کا مقابل اس طرح کریں کہ وہ واقعی ایک مجرہ اور ایک ابدی و برتر قانون نظر آنے لگے جو دائیٰ اور ناقابل تغییر بھی دکھانی دیتا ہو۔

اس موقع پر حقيقة بھی واضح رہی چاہئے کہ شاہ بانو کیس کے سلسلے میں پہریم کو رٹ نے جو غلط فیصلہ دیا تھا، وہ کوئی اچانک یا غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا۔ بلکہ اس کی کھجڑی بہت پہلے سے پک رہی تھی اور مختلف سمیناروں اور فاکرات کے ذریعہ اس کی خصا کافی عرض سے تیار کی جا رہی تھی۔ چنانچہ انہیں لا انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی کے زیر اہتمام ۱۲ ارتا ۱۶ جنوری ۱۹۷۴ء میں "اسلامک لا ان مادرن انڈیا" کے زیر عنوان ہونے والے سمینار میں پہریم کو رٹ کے ایک وکیل دانیال طیفی نے CHANGE AND THE MUSLIM LAW مقالہ پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے مسلم مطلق کے نفع کے سلسلے میں فوری تبدیلی کی حاجت کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی اہنی آیات (۲۳۱ - ۲۳۲) کو پیش کیا تھا، جس پر ۱۳ اسال بعد ۱۲ اپریل ۱۹۸۵ء میں پہریم کو رٹ نے فیصلہ دیا۔ دیکھئے کتاب "اسلامک لا ان مادرن انڈیا" صفحہ ۱۱، مطبوعہ ترباطیہ بمبئی، ۱۹۷۴ء اور دانیال طیفی دہی صاحب ہیں جو پہریم کو رٹ میں شاہ بانو کے وکیل تھے۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مختلف تحریکوں کی بنادالنے والے قانون داں اور "دانشور" قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس قسم کی کسی بھی تبدیلی یا "اصلاح" کے لئے حکومت یا عدالتور کو مختلف قسم کی تجویز پیش کرتے رہتے ہیں۔ پھر حکومت ادارے ان تجدیز کو رو بعل لاتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے لوگوں کی ذہن سازی یا "ذہنی دھڑائی" کے لئے جو ای تحریکوں کا ہونا اشد ضروری ہے، تاکہ اس قسم کے فتنوں کا صحیح اور بروقت توظیلی طور پر کیا جاسکے۔ ورنہ مسلمان عام طور پر اُس وقت جا کر چونکتے یا بیدار ہوتے ہیں جب یہ تحریکیں کہل دینے لگتی ہیں یا ان کے ثمرات و حاصلات کے ظہور کے باعث کوئی "دھماکہ" ہو جکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک سانپ کو سر نکالتے ہی کچل دیا جائے، اُس کے ڈسے کا انتظار نہ کیا جائے۔

اس اعتبار سے ایک علی تحریک کا جواب صحیح معنی میں ایک جواب علی تحریک ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ قسم کے احتجاج وغیرہ کی طاقت دز نہیں رہتی۔ جو یقیناً غفلت کے بعد جانے کا نتیجہ ہے۔ غرض ہماری ملت کو ہر وقت بیدار رہنے اور اپنی بیداری کا ثبوت ہمیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ صفت اول کی تحریک یعنی "علی تحریک" میں رہے، تاکہ اسے احتجاجی قسم کی تحریکوں سے بچاتا مل سکے جو یقیناً غفلت اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے علی طبقے میں یہ بھی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان صرف احتجاجی میدان ہی میں نظر آتے ہیں اور علی میدان میں بہت سچے رہتے ہیں۔ اگر ہماری ملت بیدار ہوتی تو ۱۹۷۴ء ہی میں اس غلط تحریک اور فتنے کا سرکوچل سکتی تھی، اور اسے ۱۹۸۳ء میں بعد میڈیا کوں پر بخل آنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ غرض مسلمانوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ کوئی صحیح علی تحریک چلانے کا شور ہر ہی جمیں رکھتے۔ لیکن اب تک آئھو رانے اس راہ میں اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو اب انہیں پوری طرح ہوش میں آجائنا چاہئے۔

لہذا فرقانیہ اکیڈمی ٹرست نے اس سلسلے میں اپنی بساط کے مطابق ایک نئی قسم کی علی تحریک چلانے کا پیرا اٹھایا ہے۔ اور یہی۔ با کیا ہے کہ اس موضوع پر تحقیق اور رسیروج کر کے نئے انداز کا لٹریچر اور دو کے عنادہ انگریزی زبان میں بھی تیار کیا جائے، جو ہمارے قدیم اور روایاتی قسم کے لٹریچر سے کیسے مختلف ہو۔ چنانچہ اس سلسلے کی یہ پہلی کتاب ہے جو انگلی مسائل و مباحث پر مشتمل ہونے کے ساتھ اور دو زبان میں غالباً ایم زرعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اب رہی بات اسلامی قوانین کی خوبیوں اور ان کے تفصیلی دلائل نیز دیگر قوانین سے ان کے موازنے اور مقابلے کی تو اس سلسلے میں چند کتابیں نیز تکمیل ہیں، جو انشاء اللہ بہت جلد منتظر نام پر آئیں گی۔ مگر ضرورت ہے کہ جدید شرعی مسائل پر خاطر خواہ کام کرنے کے لئے اکیڈمی میں ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا جائے، جس میں چند باصلاحتیت علماء کو وظائف نے کر انہیں تحقیقی کام پر لگائی جائے۔ مگر اس کے لئے اکیڈمی کے پاس کوئی سرمایہ یا فنڈ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی مستقل آمدی ہی کا کوئی ذریعہ ہے۔ لہذا، ہم

اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ اس شکل مسئلے کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ملت کے درمیان سے اپنیں کرتے ہم تھک گئے ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ ادارہ دن بدن مقرر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں۔ اور خداوند کریم کی ذات با برکات سے قوی توقع ہے کہ وہ اس شکل مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ کیونکہ مُن کا وعدہ سچا ہے کہ وہ اُس کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا، بشرطیکہ خلوص اور لگن کے ساتھ کام آئیا جائے۔ لہذا ہم اسی امید کے سہارے اس کام میں پوری شدید ہی کے ساتھ جائے گے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ تائید غیری کب اور کس طرح ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے؟

راقم سطور نے اپنی ایک سابقہ تصنیف "شریعتِ اسلامیہ کی جنگ" کے مقدمے میں تحریر کیا تھا کہ اسلامی شریعت کے موضوع پر چند کتابیں زیر تحریک ہیں، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

۱۔ اسلامی شریعت کیا ہے؟

۲۔ اسلامی شریعت پر اعتراضات کا جائزہ

۳۔ اسلام میں عورت کا درجہ

چنانچہ پیش نظر کتاب یعنی "اسلامی شریعت: علم و عقل کی میران میں" کتاب اول کے نام کی تبدیلی کے ساتھ پیش کی جائی ہے اور دوسرا کتاب حسب ذیل دو الگ کتابوں کا روپ دھارچی ہے:

(الف) تعددِ اذدواج اور مذاہبِ عالم

عقل کی سوٹی پر

(ب) طلاق اسلام اور عالمی قوانین میں

اسلامی قانون کی برتری اور معقولیت کا ایک جائزہ

یہ دونوں کتابیں انشاء اللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اپنے ہی

تیسرا کتاب قوہ تیاری کے ابتدائی مرافق ہیں ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی شریعت میں ہوڑ کے گئشت

کی جو صورت آئی ہے اُس کے علمی وجوہات اور سائنسیک دلائل پر بھی ایک کتاب زینگیں ہے۔ جو چنانے پاہا تو بہت جلد نظر عام پر آئے گی۔ اس طرح اسلامی شریعت کی عظمت و برتری ثابت کرنے کے لئے مختلف حیثیتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

پیش نظر اس تاب مذکورہ بالامان کتابوں کے لئے ایک مقدمہ کے طور پر پیش کی جائی ہے۔ اُس میں اسلامی شریعت کے مزاج، اُس کے ابتدی اصولوں اور اُس کی بعض امتیازی خصوصیات کے علاوہ اجتہاد کی حقیقت و اہمیت موجودہ دور میں اُس کی ضرورت و اہمیت اور اُس کے شرائط و مبادی وغیرہ پر بھی سیر حاصل جب تک کہتے ہوئے بعض غلط رجحانات و تحریکات کا بھی ایک جائزہ لیا گیا ہے اور غلط انکار و نظریات پر تنقید کی گئی ہے۔ تاکہ اس سلسلے کے صحیح اصول کی وضاحت کے ساتھ غلط فہمیوں کا پردہ سی پوری طرح چاک ہو جائے اور ہر چیز نکھر کر سانے آجائے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اسلامی شریعت کے تحصیل مباحث پرستیل ہے، جن کا تعلق "اصول فقہ" یعنی ISLAMIC JURISPRUDENCE ہے۔

غرض موجودہ دو کتب اور فرقہ کے لحاظ سے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اسلامی اعلیٰ اور اسلامی قانون کو نئے قاب اور نئے پیر منہن ایں پیش کیا جائے۔ الہذا اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی یہ سہیلی کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اور انشاء اللہ اس کے بعد اس قسم کی مزید کتابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نیا سلسلہ جو نکہ خالص علمی و تحقیقی نوعیت کا حامل ہے، الہذا اس کی اہمیت و افادیت سے انشاء اللہ اگلا کوئی بھی دوستی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ یہ ہر دور کے لئے مفید اور کار آمد رہے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو مقبول و نافع بنائے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔

خادمِ ملت

محمد شہماں الدین ندوی

(۱)

کیا اسلامی شریعت میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟

ایک علمی تحقیقی جائزہ

چند دہوں سے مختلف اخبارات اور سیناروں کے ذریعہ بعض جدید علمی یافتوں میں یہ پوچھنڈہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی شریعت کے بعض حصوں میں (جن کا تعنی مسلم پرنسلا سے ہے) اصلاح اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حالات و زمانے کا ساتھ نہیں فی سکتے، کیونکہ یہ قوانین آزادی نسوان اور حقوق خواتین سے متصادم ہیں۔ چنانچہ جن اسلامی قوانین کو سب سے زیادہ نشانہ مامن بنا لیا جا رہا ہے وہ طلاق اور تعدی ازدواج (POLYAMY) ہیں۔ گویا کہ یہ قوانین، بن کر اسلام نے عورتوں کی حق تنفسی کی ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ناصافی کی ہے۔ لہذا "اصلاح پسندوں" کا نزد ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے ان اسلامی قوانین کو بدل دیا جائے یا ان کی "اصلاح" اس طرح کر دی جائے کہ وہ "لنگڑے لوٹے" اور بالکل "بے ضر" بن کر رہ جائیں۔ لہذا وہ اپنی طرف سے مختلف "اصلاحی تجویز" پیش کرتے ہیں کہ ان قوانین میں تبدیلیں انداز کی ہو۔ اور یہ طالبہ جس طرح غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہمزا بعض مسلم (انشوروں) کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے اور وہ "اجتہاد" کے نام پر اس قسم کے احکام میں تبدیلی کرنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں۔ یعنی جو نکلے اسلامی شریعت میں صاف صاف تبدیلی کی بات کرنا قابل اعتراض ہو سکتا ہے،

لہذا وہ اجتہاد کا پُر فریب نہ ہوئے کہتے ہیں کہ اب حالات و زمانے کی رعایت سے اس قسم کے احکام میں دوبارہ اجتہاد کرنا یاد و بارہ خور و نکر کے ذریعہ ان میں ترمیم و اصلاح کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ حالانکہ اجتہاد کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیاس و اجتہاد صرف انہی مسائل میں ہو سکتا ہے جو غیر مخصوص ہوں۔ یعنی جن مسائل کی تصریح میں قرآن اور حدیث خاموش ہوں اُن میں ان دونوں کی روشن کوئی نظر کہ کغیر مخصوص یعنی غیر مذکور مسائل حکم معلوم کرنے کا انہاً اجتہاد ہے۔ یہ نہیں کہ مذکور شدہ احکام مسائل ہی کو بدل دیا جائے یا انہیں مطل کر دیا جائے۔ اس کا انہاً اجتہاد نہیں بلکہ دین کی تحریف و تفسیر ہے۔ اور یہ کام صرف شائع کا ہے کہ وہ اپنے جس حکم کو چاہے تو شوخ کر سکتا ہے اور جس کو چاہے برقرار کر سکتا ہے۔ لہذا ایک سمجھتہ کبھی شائع نہیں بن سکتا اور وہ اس منصب پر کبھی فائز نہیں ہو سکتا۔

شریعت میں تبدیلی کا حق خود رسول کو بھی نہیں تھا

اسلامی نقطہ نظر سے اصل شائع (واضح شریعت) صرف باری تعالیٰ ہے اور اُس کے سبق کو اس میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ رسول شریعت یا حکم الٰہی کا شائع و مفترس ہے جسکو قرآن مجید کے مدد دیتے ظاہر ہوتا ہے۔

إِنَّ أَنْحَكَمُ وَاللَّٰهُ أَكْبَرُ، أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينُ الْقَاطِعُونَ
حکم کو ناصف اللہ ہی کا کام ہے۔ اُس نے تاکید کی ہے کہ صرف اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے۔ (یوسف : ۲۰)

شَهَدَ جَعْلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ : پھر ہم نے آپ کو ایسی شریعت پر مقرر کر دیا ہے جو (ہمالے) حکم ہے، لہذا آپ اسی کی پیروی کیجیئے اور ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلے تو (صحیح) علم نہیں رکھتے۔ (جااثیہ : ۱۸)
فَاضْرِبْ لَهُمْ رِبِّكَ وَلَا تُطْعِنْ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَذْكُفُو رَا : تم اپنے رب کے حکم پر ڈٹئے رہو، اور ان منکریں جن میں سے کسی بھی خط کار یا حق بات جھپٹانے والے کا کہامت مانو۔ (دہر : ۴۴)
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَشِّرَنَّ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَ

ہُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ شُوٰمِنُونَ : اور ہم نے یہ کتاب آپ پر اسی لئے آثاری ہے کہ آپ انہیں وہ بات کھول کر بتا دیں جسیں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ (خل: ۶۲)

وَاثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَّبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ:
اور پڑھو اپنے رب کی کتاب میں سے جو تمہارے پاس بطورِ حقیقی گئی ہے۔ اُس کی باقی کو کوئی بدلتی نہیں سکتا۔ (کہف: ۲۷)

اجتہاد کرنے والے مسائل میں؟

ظاہر ہے کہ جب خود رسول بھی شریعتِ الہی کا پابند ہے اور اس میں وہ کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا تو پھر یہ حق دوسروں کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ ایک مجتہد کا کام "منصوص احکام" (صراعت شدہ مسائل) میں اصلاح و تبیدی نہیں بلکہ صرف ان کی تشريع و تفسیر کرنا اور نئے احکام و مسائل میں شریعت کا حکم منع کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو میں بھیجتے وقت ہدایت فرمائی تھی۔ دیکھئے اس میں کہنی صراحت کے ماتحت ان مسائل پر روشی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور سند احمد بن حنبلؓ غیر میں یہ حدیث اس طرح مردی ہے:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو میں کا حاکم بن کر بھیجنا چاہا تو آپ نے اُن سے (بطور ایمان) دریافت فرمایا کہ جب تمہارے مامنے کوئی قضیہ پیش ہو تو تم اُس میں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر تم اُس قضیہ کا مامل کتابِ اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس پر آپ نے پھر پوچھا کہ اگر تم کتاب و سنت دونوں میں اس کا مامل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اس پر معاذ نے کہا کہ میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔

تو اس جواب کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور معاذ کی پیٹھ

ٹھونکی اور فرمایا کہ الحمد للہ اُس نے رسول خدا کے قاصد کو صحیح سوجہ بوجھ عطا کی۔ لے

قرآن اور حدیث سے اعراض کا انعام

موجودہ دور میں اصلاح و ابہتا دعا کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنے دعوؤں کے ثبوت میں بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ مگر اس حدیث کے مُند رجات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ابہتا صرف اُسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب کہ متعلقہ مسئلے میں قرآن اور حدیث خاموش ہوں۔ ورنہ پھر قرآن حدیث میں موجود و مذکور (منصوص) سائل میں ان کے مُطابق فیصلہ کرنا واجب ہو گا۔ اور جو لوگ کتاب و سُنت کے فیصلوں سے بہت جائیں وہ مجتہد تو کیا ہوں گے سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، جیسا کہ ارشاد باری ہے :

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا : اور تم اللہ اور رسول کی اعلیٰ کرو اور (ان کی لا فرمائی سے) بچو۔ (ماٹہ : ۹۶)

فُلَّمْ أَطْبَعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ . فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ :
کہہ دو کہ تم اللہ اور رسول کی فرمابندراری کرو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو (علوم ہونا چاہئے کہ) اللہ ایسے منکرین جن کو پسند نہیں کرتا۔ (آل عمران : ۳۷)

اس آیت کریمہ اللہ اور اُس کے رسول کی تعیمات سے اعراض کرنے والوں کو حکم طور پر کافر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ایسے لوگوں کو منافقین کا لقب دیا گیا ہے :

وَإِذَا قُتِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ زَانَتِ الْمُنْفِقِينَ يَصْدُقُونَ عَنْكَ صَدْرُهُمْ : اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے پہلو تھی کر رہے ہیں۔ (نساء : ۴۱)

اسلامی شریعت علم اور عقل کی بڑاں ہیں

اور اسی معنی میں وہ آیات بھی ہیں جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی غالباً سب سے زیادہ سخت اور شدید ترین آیات ہیں :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ..... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ..... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں ایسے لوگ فاسد ہیں۔ (ماہرہ: ۳۷ - ۳۶)

چنانچہ موجودہ دوسریں ایسے لوگ براہ راست قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کے بجائے بعض مسلم مالک کے موجودہ "اصلاح شدہ" قوایں کا والریتے لوگ جاتے ہیں، جو گویا کہ ان کی نظر میں "صحیح اسلام" ہے، اور "نقد اسلامی" کو جو اسلامی شریعت کے صحیح اصولوں کے تحت امداد اور مجتہدین امانت کا مذوق سدہ ذجیرہ ہے، قرآن اور حدیث کے "مزاج و روح" سے ہٹاہو اور غیر مطابق بتاتیں، ائمہ و مجتہدین کی اتباع

اس موقع پر ضمناً اس حقیقت پر بھی تھوڑی ہی روشنی ڈال دینا ضروری حلوم ہوتا ہے کہ اپنے قرآن امداد اور مجتہدین (جن کا قیاس واجہتاء صحیح بنادرؤں پر قائم ہوا وہ جن کی خدا ترسی یہی کسی قسم کا شہر نہ ہو) کی پیری اور ان کا اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ کونکہ ہر شخص قرآن اور حدیث کے مسائل پر حادی نہیں ہو سکتا اور براہ راست ان سے اخذ و استفادہ نہیں کر سکتا۔ ورنہ بصورت دیگر لوگ بڑی مشکلت میں پڑ جاتے۔ چنانچہ حبِ ذیل آیت میں اللہ اور رسول کے بعد جن "صاحبِ معاملہ لوگوں" کی پیری کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مراد صاحبِ بصیرت حاکم اور علماء دنوں ہو سکتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِينُو اللَّهَ وَأَطِينُو الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَّلْتَ عَلَيْهِ فَشَرِّفْتَهُ وَإِنْ تَرْكَهُ فَلَا يُغْرِيَنَّ إِنْ كُنْتَ مُتَّخِذًا مِنْ تَوْمِيزَنَ باللہ وَالنَّبِيِّ
الْآخِرِيِّ ذِلِّكَ تَحْيِي وَأَخْسِنُ تَأْوِيلًا: لے ایمان والو انشا اور رسول کی فرمابرداری کرو، لاؤ
 ان کی بھی جو صاحبِ معاملہ ہوں۔ پھر اگر تم کسی مسئلے میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف
 درجع کرو، اگر تم کو انشا پر اور یہم اکثرت پر ایمان ہو۔ بھی بات اپنی ہے اور انہیں کے لحاظ سے بہتر (نساء: ۵۹)

علماء کی اطاعت مشروط ہے

اس آیت کو یہیں صاف طور پر جتدیا گیا کہ اصل اطاعت صرف ائمہ اور اُس کے رسول ہی کی ہے۔ اور حکام وقت نیز اہل علم کی اطاعت مطلقاً نہیں بلکہ مشروط ہے۔ یعنی جب تک یہ لوگ خدا اور رسول کے تبعکوں کی صراحتاً اتباع کر رہے ہوں ان کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر خدا اور رسول کے احکام سے ہٹنے ہوئے ہوں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نیز اسیں یہ بھی جتنا دیا گیا کہ اختلاف آراء کی صورت میں آخری فیصلہ کتاب و محنت کے مطابق ہو گا اور اس باب میں فلاں اور فلاں کا قول و مل قابل اعتبار نہ ہو گا، خواہ وہ کسی "مسلم حکومت" کا فیصلہ ہو یا کسی فقیہہ کا جہاد۔ غرض اس حکم خداوندی کے مطابق اہل حق علماء کی اطاعت بھی مشروط طور پر واجب ہے۔ اور جب دلائل کی روشنی میں علمائے حق کا طریقہ واضح ہو جائے تو پھر اس سے ا واضح کرنا بھی ایک دوسری آیت کے مطابق ایمان سے خود می کا باعث ہو گا، جہاں پر علمائے حق کے اس طریقہ کو "سبیل المؤمنین" فارس کراس سے ہٹنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے:

وَمَنْ يَشَاءِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدُىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُضْلِلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًاً ، اور راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف پھنسنے کا وہم اُس کو ادھر ہی چلا جائیں گے جس طرف کا اُس نے رُخ کیا ہے اور اُس دفعہ کے حوالے کردیں گے؛ جو ہبہ بُری ہو گے۔ (نہاد: ۱۱۵)

ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے راستے سے مراد ہی محفوظ طریقہ ہے جو صحابہ کرام، تابعین اور تبعی
تابعین کا طریقہ و راستہ تھا۔ اور چودہ سو سال سے یہ اُمت اسی راستے پر جل رہی ہے۔

اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے

واضح ہے کہ اجتہاد کی ضرورت جیسا کہ خود صحابہ اور تابعین کے دور میں تھی اور جس طرح ائمہ اور
عجمتیدین کے دور میں تھی، اسی طرح وہ آج بھی موجود ہے۔ اور اجتہاد کی راہیں ہموار کرنے والی خود صحابہ کرام
تھے۔ اجتہاد کی ضرورت و اہمیت سے شاید یہ کوئی صاحب تکوں عالم انکار کر سکتا ہے۔ مگر وہ نئے نئے
لئے تفصیل کے لئے دیکھئے علام ابن تیمی کتاب اعلام المُوقِّعین۔

پیش آنے والے مسائل میں ہے۔ اور اس کے حدود و شرائط سے اصول فقہ کی تابیں بھری ہوئی ہیں۔ رسول اور مجتہد کا فرق یہ ہے، رسول سے غلطی ہرزد نہیں ہو سکتی، مگر مجتہد سے غلطی ہرزد ہو سکتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ ارشاد و ادب رسول جو کتابِ الہی اور قانونِ الہی کی شرح و تفسیر کے طور پر ہیں قانونِ شریعت کا ایک سبق سرچشمہ اور اس کا مأخذ ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غرض کوئی بھی فقیہہ و مجتہد غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خود فقہارے بھی اپنے باتے میں بھی بات کہی ہے کہ ”جب کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی مسجد مذہب ہے اور اس مسجد میں تم میرے قول کو دیوار پر لے مارو“ گے۔

اجماع امداد قرآن کی نظر میں

نیز مذکورہ بالا آیت کریمہ (نساء: ۱۱۵) کے ذریعہ ایک اور اصول ”اجماع“ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اجماع کا مطلب ہے کسی دور کے علماء و فقہاء کسی مسئلے پراتفاق و اتحاد۔ چنانچہ جب کسی دور کے علماء و فقہاء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو وہ قرآن اور حدیث ہی کی طرح قابلِ صحبت بن جاتا ہے۔ اور اس سے ہٹنا ”سبیل المؤمنین“ سے ہٹنا شمار ہو سکتا ہے۔

اس طرح اصول فقه (ISLAMIC JURISPRUDENCE) کے تقریباً تمام بُنیادی اصول خود قرآن و حدیث ہی سے مانوذ ہیں۔

حال یہ کہ قرآن اور حدیث کے بعد اجتہاد اور اجماع امداد بھی اسلامی قانون کا سرچشمہ ہیں اور دوں میں ان کی بھی صحبت ہے۔ قیاسی امور میں تو ایک فقیہہ (ماہر قانون) کا اجتہاد دوسرے فقیہہ سے

۱۔ تاریخ فقہ اسلامی کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریافت اور فتنہ اسلامی کی ترویں کے بعد یہ کیا میامنندی در آیا جب کہ علماء میں بلند گاہی باقی نہیں ہی بوجو اجتہاد کا خاص مقیمی اور شرائط اجتہاد کی کی کے باعث طرح طرح کے فتویٰ کا اندر پیدا ہو گیا، تو اس وقت کے علماء نے محض تحفظ شریعت کے جذبے کے تحت اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ضرورت ہر دوں بیشتر ترقی ہے گی۔ مگر اجتہاد کرنے کے لئے اس کی شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی محض مجتہد نہیں بن سکتا۔

۲۔ دیکھنے تاریخ الشريعة الإسلامية، از محمد الخضری، ص ۳۲۶

۳۔ ترکیب المدخل إلى علم أصول الفقه، از داکٹر معروف دوالی۔

مختلف ہو سکتا ہے، اور انہر اربعہ کے اختلافات کی نوعیت اسی قسم کی ہے۔ مگر جب کسی مسئلہ پر تم ایسا کثر فہما متفق ہو جائیں تو پھر اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ بیک لفظ یا ایک مجلس کی تین طالبوں کے وقوع پر چاروں انہر اور بہت سے فہماء کے علاوہ تمام محدثین متفق ہیں اور یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مگراب موجودہ دور کے "مصلحین" یا تجدید پسند لوگ اس متفقہ مسئلے میں نئے سرے سے "اجتہاد" کر کے اس قانون کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی کتر بیونت کی اسلامی شریعت میں اصولاً اجازت نہیں ہے۔ بلکہ سابقہ تفصیل کے مطابق اس قسم کی حرکت کا نام اجتہاد نہیں بلکہ تحریف دین ہے۔ اور یہی عمل تعزیز دو ازواج (POLYGAMY) اور دیگر مسائل کا باعث ہے۔

غرض مجموعی اعتبار سے یہ بات خوب یاد رہنی چاہئے کہ قرآن اور حدیث کے واضح نصوصیں یعنی مُنْ کے واضح احکام و مسائل اپنی حکمرانی کا مکمل اور ہر دور کے لئے قابل عمل ہیں جن یہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

فقہ اسلامی کی حیثیت

اب رہا معاملہ فقہ اسلامی یا فہما کی انفرادی رایوں کا، تو اس میں دو قسم کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے منصوص احکام کی تشریع و توضیح پر مشتمل ہے۔ تو اس بارے میں اگرچہ اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے۔ (جیسا کہ خود فہمائے اربعہ کا نقطہ نظر مختلف ہے) مگر ان احکام میں بجاۓ خود کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شریعت کی اصل و اساس ہیں۔ لہذا ان میں ترمیم و اضافے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ دلائل کی قوت کی بنا پر صرف اتنا کیا جاسکتا ہے کہ کسی ایک فقیرہ کی رائے کو ترجیح حاصل ہو جائے۔

اور دوسری قسم کے احکام و مسائل وہ ہیں جو قیاسی و اجتہادی ہیں۔ قوانین مسائل میں دلائل کی بنیاد پر ترمیم و اضافے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور خود ان کی روشنی میں بعض نئے مسائل کا حل بھی کھالا جاسکتا ہے۔ مگر یہ کام صرف علماء کے کرنے کا ہے۔ اور موجودہ دور میں اس قسم کے اجتہاد کوئی فردا وارد

اجماً نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی شرائط کو پورا کرنا کسی فرد واحد کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس کام کو اجتماعی طور پر انجام پانا چاہئے۔ اور اس کے لئے جید اور صاحب نظر علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہئے۔ حامل یہ کسی فقیہہ کا قیاس و اجتہاد ہرف آخ نہیں ہو سکتا۔ مگر فقہاء کرام کپرسی قسم کے تعصب یا انفاسیت کا الزام لگانا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے فقہ اسلامی کی تدوین ہیں جو مشقیں برداشت کیں اور جس وقت نظر دز نکتہ رسی کا ثبوت دیا ہے اُس سے زیادہ کا تصور حدیث سترست سے باہر ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو اصول تحقیق و تدوین وضع کئے وہ ہمالے لئے دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر آج ہم ایک نئی عارض کھڑی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہئے۔

نئے دعویداروں کی بنیادی غلطی

غرض موجودہ دور میں "اجتہاد" اور "اصلاح و تبدیلی" کا بے جا ہوئی کرنے والوں کی بنیادی غلطی یہ ہے۔ جیسا کہ ان کے مطابقات کا منطقی نتیجہ ہے۔ کہ ان کی نظر میں قرآن اور حدیث بھی صحیح نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ نصوص شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے واضح احکام میں تبدیلی کا مطالبہ کرنا منطقی طور پر صوص شریعت کو بدلتے یا انہیں عقل انسانی یا حالات و زمانے کے تابع قرار دینے ہی کا مطالبہ ہے۔ اور اس قسم کے لوگوں کے بالے میں قرآنی فتویٰ اور مذکور ہو چکا ہے کہ وہ کس زمرے میں داخل ہوں گا جہاں تک اس قسم کی ذہنیت کے تخلیل و تجزیہ کا تعلق ہے تو یہ دراصل مستشرقانہ دماغ کی پیداوار ہے، جن کی نظر میں قرآن کلام فدرا نہیں بلکہ کلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ اس اعتبار سے جب وہ ایک انسان کا کلام ہے تو اسلامی شریعت بھی لامی اور طور پر ایک انسان کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ لہذا جس طبقی یا انسانی قانون سازی (LEGISLATION) میں حالات و زمانے کے تقاضوں کے تحت وقتاً فوتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طبق شرعی قوانین میں بھی عصری ضروریات اور تقاضوں کے تحت تبدیلیاں ہوتی جاہمیں۔ مگر جب مسلمان کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو وہ مسلمان کا مذاق اُڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان دین کی ایسی

یہ جو تینوں سلطی کے ایک "فسودہ" قانون کو دانتوں سے پڑھتے ہوئے ہیں۔ جب دنیا کے تمام قانونی بل نئے ہیں تو اسلامی قانون کو بھی بدلنا چاہئے۔ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا تو اکیسویں صدی میں جائے اور مسلمان ساتوں صدی کے قانون میں بھجتے ہوئے دم توڑتے رہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو بطور طمعہ رجعت پسند اور بنیاد پرست وغیرہ القاب سے یاد کیا جانا ہے۔ گویا کہ وہ ترقی نہیں چاہئے اور ترقی پسندی کے بالکل مخالف ہے وغیرہ وغیرہ۔

مگر جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے یہ سالے الزامات بے بنیاد ہیں، جو عرض پر وپنڈے اور پریس کی قوت کے زور پر چلا گئے جاتے ہیں اور صورتِ واقعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ سالے فتنے مستشرقین اور اہل مغرب کے پیدا کئے ہوئے ہیں؛ جن کو اسلام اور اسلامی قانون سے انتہائی بغض و عداوت ہے اور اس کے پیغمبر مطہل و صلیب کی ہمراکہ آرائیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ بُر "صلیبی چیاد" کی ناکامیوں کے بعد ابستمی دنیا کے ذمیں دناغ اسلام سے اپنی عداوت کا "علیٰ اعتباً" سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس میدان میں اُس کو "شکست" دینے کے لئے پوری طرح کرس پکے ہیں۔ مگر وہ حقیقت واقعہ کے اعتبار سے خوب اپھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی قانون ایک برتر اور اعلیٰ درجے کا قانون ہے۔ اور اس کی معمولیت کی وجہ سے دُنیا اب آہستہ آہستہ اسلامی قانون کی طرف بڑھ رہی ہے (جیسا کہ طلان اور دیگر قوانین کی بہتر نعمت مقبولیت اور ان کی غالیگیری سے ظاہر ہوتا ہے)۔ لہذا وہ اس کی مقبولیت سے خائف ہیں اور عرض اس کی راہ میں وٹے الکانے کی خاطر فسوس کاری سے کامیابی ہوئے اس کے بالے میں طرح کے شوشے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور ان کے پروردہ یا ان کی فخر سے متاثر ان کے مشرق شاگرد ہمیں اسلامی شریعت کے بالے میں ہو بہو وہی اعتراضات دُھراتے جا رہے ہیں جو ان کے منزی اُستادوں نے کئے ہیں۔

ترقی پسندوں اور فرقہ پرستوں کا گکھ جوڑ

اس موقع پر حقیقت بھی پیش نظر ہمنی چاہئے کہ ہندوستان میں اسلامی قانون کی تبدیلی یا اصلاح کا مطالبہ کرنے والوں میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں: ایک توہ فیصلہ فرقہ پرست اور ان کی تنظیمیں

ہیں جن کو اسلامی قانون سے بغض و حسد اور انہتادار جے کا بیر ہے اور وہ اپنی نام نہاد قومی ایکٹ کی آہیں اسلامی قانون کو ایک سرنگ گران تصور کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ "مسلم خانہ دا شور" جو ترقی پسندی کالاواڑ اوڑھ کر ادا صلاح و اجتہاد کا ڈھونگ رچا کر اس میدان میں آئے ہیں۔ چنانچہ اسلامی قانون کی اصلاح یا اس میں ترمیم و تبدیلی کا مطالبہ ان دونوں گروہوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ان دونوں میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف اتنا کہ پہلا گروہ اکمرادا طور پر یہ بات کہتا ہے، جب کہ دوسرا گروہ اس کے لئے کچھ "اسلامی اصولوں" کا سہارا بھی لیتا ہے۔ مگر دونوں کی تان یکساں طور پر "اصلاح و تبدیلی" ہی پڑھتی ہے۔ اور یہ دونوں طبقات چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون "ہر قیمت پر" بدلت دیا جائے، خواہ وہ لگنا دیا والوں کیوں نہ ہو جائے۔

اس حیثیت سے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا گتھہ جوڑ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ دوسرے وساںو (۵۵ء و ۶۷ء) کے درمیان شاہ باز کس کے سلسلے میں ہندوستانی پریس نے مسلمانوں کے خلاف جو طوفان برپا کیا تھا، اُس میں ان دونوں طبقات کے مطالبات میں شدت و یکسانیت نے اس حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔

مطالبے کی عدم معقولیت

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی شریعت میں تبدیلی کا مطلبہ تمام تر سیاسی ذہن کی پیداوار ہے، جس کا حقیقت دواقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اس لئے قانون میں ترمیم و تبدیلی کا مطالبہ علیٰ عقلی یا معمول دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس ملک میں ایک مصنوعی قسم کی "تہذیبی وحدت" پیدا کرنے کی حرکیک کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلے میں چند لمحت فروش اس ملک کے سیاست دانوں سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بہر حال یہ ایک غیر معقول اور مخالف الطیغ مطالبہ ہے، جس کے پیچے کوئی علیٰ یا نظریہ نہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ اسلامی قانون ہی دو احمد قانون ہے جو فدائی قانون ہونے کے باعث اپنی جنگ پر کامل، برتر اور بالکل ماضی تھا نظر آتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دنیا بھی اب آپ ہے آپ ہے۔

کی اسلامی شریعت میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟

۲۹

اسلامی قوانین کو اپنانے لگ ہے، جیسا کہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں آج اسلام کے قانون طلاق کے بالے میں نظر آ رہا ہے۔ وہی قانون جس کو سمجھی دُنیا اب تک بہت برا بحق تھی اور جس سے ہندو مذہب شدید نفرت کرنے ہوئے گرتا تھا کہ شادی کے بعد مرد اور عورت کا رشتہ "جم جنم کے بندھن" کے طور پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ مگر اب اس قسم کے تمام دعوے اور تمام بندھن بگردی کے تاریخ کی طرح فوٹے نظر آ رہے ہیں کیونکہ نہ صرف سمجھی دنیا نے بلکہ خود ہندو مذہب و معاشرے نے بھی قانون طلاق کو اپنا کر اس کی معقولیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس طرح اب یہی شیگی دوام کا حامل ہر فحول قانون ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام کے دین نظرت ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ دُنیا ہر پھر کر اسلامی سر شیرہ چاہتا ہے اخذ و استفادے پر مجبور ہے۔ یہی حال اسلامی شریعت کے دیگر تمام قوانین کا بھی ہے۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا : اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سمجھی ہو سکتی ہے؟

(النساء: ۸۸)

(۲)

اسلامی شریعت ناقابل تغیر کیوں ہے؟

اسلامی شریعت کی برتری اور عقولیت کے دلائل

قانون صرف خدا ہی کا کیوں؟

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سماں کے جہاں کا خالق دپر درگار ہے۔ اُسی نے دنیا کی تمام چیزوں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ دنیا عارضی و قافی ہے جس کے بعد ایک فیصلہ کا دن آئے گا اور تمام مرنے ہوئے انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کر کے اس ت حساب کتاب لیا جائے گا کہ کن کن لوگوں نے دنیا میں ہماری باتوں کو کمانا اور ہمایتے قانون پر عمل کیا؟

اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح اُس نے انسان کے لئے ایک قانون اور ضابطہ بھی تیار کر کے اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اور اسی خدا ہی قانون اور ضابطہ کا نام ”دین و شریعت“ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے آزاد ہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ انہیں ایک ضابطہ اور قانون کا پابند بنانا چاہا ہے۔ اور یہ بات عقلی اعتبار سے بھی قابل فہم ہے کہ جو انسان کا خالق دپر درگار ہے وہی اس کے لئے ایک ضابطہ حیات بھی ہبھتا کر سکتا ہے۔ اور خود انسان کا روئیہ بھی بھی ہونا چاہئے کہ جس ہستی نے اُسے عدم سے وجود بخشا اور نیا نیا

اُس کے لئے تمام ضروریاتِ زندگی مہیا کر دیں، اُس کے عوض وہ احسان شناسی اور شکرگزاری کے طور پر
لیے خالق و پروردگار کے حکموں پر چلے اور کسی حال میں اُس کی نافرمانی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری
اور سقول مطالبہ ہے، جس کی حقیقت قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

آلَّا إِنَّمَا الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ بِمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ : هَذَا دِيْنُهُوَدِيْنٌ أَوْ حُكْمٌ جَلَّا نَا

اُسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی خوبیوں والوں ہے جو سالے جہاں کا رب ہے۔ (اعراف: ۵۲)

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ^۱ أَمْرَّ إِلَّا تَعْبُدُ دُولَةُ إِلَّا إِيمَانُهُ^۲ دُلَكَ الدِّينُ^۳ الْقِيمَةُ^۴ وَلَكُنَّ
اَخْتَرُ الْتَّائِسَ لَا يَعْلَمُونَ: حکم گرنا صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ اُسی نے حکم دیا ہے کہ تم ضر
اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ (یوسف: ۳۰)

اس سائیت میں تین بنیادی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ حکم صرف خدا کا ہوگا۔ یعنی انسانوں پر صرف اُسی کا قانون لاگو ہوگا۔ لہذا اہل قانون یا زار
صرف اللہ ہے۔

۲۔ عبادت و بندگی صرف اللہ کی ہوئی چاہئے، کیونکہ وہی خالق و مالک اور مرغی ہے۔
عبادت و بندگی کی اہل یہ ہے کہ کسی کی راستی کو تسیلم کر کے اُس کے سامنے سر ہی نیازِ محکما دیا گائے۔ یہ گوا
کہ اللہ تعالیٰ کو قانون ساز تسیلم کر لیتے کا لازمی نیچہ ہے۔

۳۔ یہی صحیح دین یا صحیح طریقہ ہے۔ یعنی دین بہی دو باقون کو مان لیتے کا نام ہے۔ اور اسی
کا دوسرا نام شریعت ہے۔

احکام شریعت کا احاطہ

اسلام کی اصطلاح میں شریعت اُس طریقہ کا نام ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے شفر
کر دیا ہو۔ اور اس اعتبار سے دین و شریعت تقریباً ہم معنی ہیں۔ مثال کے طور پر احکام دین کو احکام شریعت
بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ احکام تمام معاملاتِ زندگی پر محيط ہیں، جن ہیں عقائد و عادات اور معاشری اجتماعی
امور سمجھی آجاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں خالق کائنات نے انسانوں کے لئے جو فصل و قوائیں یا ضوابط حا

اسلامی شریعت علم اور عقل کی بیزان میں

تجویز کئے ہیں وہ آج ہمارے سامنے اسلامی شریعت (قرآن اور حدیث کا مجموعہ) کی شکل میں موجود و محفوظ ہیں جو انسانی زندگی کے تمام احوال و کوائف کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور اس افہارس سے اسلام دیگر فناہب کی طرح محض چند عقائد یا چند بے جان قسم کے رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک زندہ اور تحریک دین سے جو انسان کو خالق و مخلوق کے صحیح روابط سے آشنا کرتا ہے، اس کو لذتِ عبدیت سے روشناس کرتا ہے اور زندگی کے زموز و اسرار سے پرداہ اٹھا کر انسان کو ابدی سعادتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

قوانين شریعت ناقابل تغیر کیوں؟

اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ خدائی قانون یا اسلامی شریعت ناقابل تغیر کیوں ہے؟ تو اس کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ وہ چونکہ خدا کا بنا یا ہوا قانون ہے اس لئے وہ ناقابل تغیر ہے بلکہ اس پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خدا کا بنا یا ہوا قانون کیوں ناقابل تغیر ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام قوانین میں برابر ارتقا ہو رہا ہے اور سب کے سب قانون ارتقا کے مطابق مُسلسل ترمیم و اضافے کو قبول کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آخر اسلامی یا خدائی قانون میں یہ استثناء اور جمود کیوں ہے؟

تو اس کا پہلا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اسلامی قانون دیگر قوانین اور دیگر تہذیبوں کی طرح کسی ارتقا علی یا انسانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ جس طرح انسانی تہذیب و تمدن نامیاتی احصار کی طرح پیدا ہوتے ہیں پھر جو ان ہوتے ہیں اور پھر پورٹھے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف تہذیبوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے۔ انسانی یا اوضیعی قوانین چونکہ انسانی کوششوں سے وجود میں آتے ہیں اس لئے وہ دور قدیم سے لے کر اب تک مسلسل تغیر ارتقا کے مختلف مراحل سے گزر موجودہ حالت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان میں آج بھی تغیر اور ارتقا کا مغلل برابر جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہتے ہیں گا۔ مگر اس کے بغایس شریعت کے قوانین یکجا لوگ اور کامیکل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور ان میں روز اول سے لے کر آج تک کسی قسم کی تبدیلی یا ارتقا نہیں ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ آج بھی اسی طرح اپنی جگہ پرہر صرف کامل و بر تن نظر آ رکھے ہیں بلکہ وہ ہر دو رکے لئے کار آمد اور قابل علی بھی دلکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اسلامی شریعت کا وہ مجھہ ہے جس پر میں نیا جتھے ہے۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہنی چاہئے کہ جدید وضی و قوانین کے بعض وہ اصول و مکتبیات جن پر عصرِ جدید کو بردا نہیں ہے، مثلاً نظریہ مساوات، نظریہ عدل، انسانیت فوازی اور انہمارائی کی آزادی وغیرہ، تو یہ سب کے سب اصول و مبادی اسلامی شریعت ہی سے مانوذ ہیں، جیسا کہ اگلے مباحثت سے بخوبی ثابت ہو جائے گا۔ بلکہ اسلامی شریعت میں بعض ایسے اچھوتے اصول بھی موجود ہیں جن تک عصرِ جدید کی اب تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی شریعت کا مراجع اور اُس کا نیجہ درگز قوانین اور تہذیبوں سے کیسے مختلف ہے۔ وہ پہلے ہی دن ایک کامل تر، برتر اور دوائی شکل میں نازل ہوئی ہے، جس پر کہنگی کی پڑھائیاں کہنی ہیں پڑھ سکتیں۔ اور وہ پودہ ہوسال سے اب تک رنجانے کے لئے فلسفوں نظریوں اور تحریکوں کا نہایت درجہ پامردی کے ساتھ مقابلہ کرچکی ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اب تک بالکل تلاذہ دم اور ہشاش بشاش نظر آرہی ہے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ وہ من جانب اسرار ہے۔ ورنہ اگر وہ کسی انسان کا بنایا ہو تو کبھی کافی سودہ اور کاٹٹ اف ڈیٹ ہو چکا ہوتا۔ لہذا اسلامی شریعت اپنے اس مخصوص مزاج اور شخصیوں مہیت کی بنا پر کسی ہی قسم کے رد و بدل کر قبول نہیں کر سکتی۔

اسلامی شریعت کے ناقابل تغیر ہونے کا دوسرा تحقیقی جواب یہ ہے کہ تخلیق (CREATION) اور تشریع (LEGISLATION) دونوں محدودی علی ہیں۔ لہذا جس طبق دنیا نے فطرت (NATURE) میں جاری شدہ قوانین فطرت (LAWS OF NATURE) ناقابل تغیر ہیں، اسی طبق قوانین شریعت بھی ناقابل تبدیل ہیں۔ کیونکہ جس سستی نے عالم طبعی کا ضابطہ جاری کیا ہے اُسی نے قوانین شریعت بھی وضع کئے ہیں۔

ایک اشکال اور اُس کا جواب

اس موقع پر ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سابق انبیائے کرام کے شرائع چونکہ مختلف ہے یہی لہذا مذکورہ بالا توجیہ کے اعتبار سے ”شریعتِ الٰہی“ میں وحدت کہاں رہی تو اس کا جائز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ شریعت تو یوم ازل ہیں ایش کے علم ازلی کے مطابق کامل تھی۔ پھر وہ اُسی کا مشکل ہیں

اسلامی شریعت مطابق اور عقل کی بیانیں

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور پھر وہ اُسی کامل شکل میں آج ہمارے سامنے موجود و محفوظ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے شریعتِ الٰہیں ازل سے اب تک تکمیل کا تغیر ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب رہا معاشر سابق انبیاء علیہم السلام کا تو ان سب کا دین اسا سی امور میں مشترک تھا۔ مگر انہیں پند ایسے احکام بھی دئے گئے تھے جو اگرچہ باہم کچھ مختلف تھے۔ مگر اصول حیثیت سے یہ اختلاف کچھ زیادہ نہیں تھا۔

اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی آخزد مان تک ہر دور والوں کو ایک "مکمل شریعت" کا پابند بنا دیا جاتا۔ بلکہ حسب ضرورت اس مکمل شریعت ہی کے بعض حصے کسی ایک دور میں دئے گئے تو کچھ حصے دوسرے دور میں دیجئے گئے، اس طور پر کہ نشانہ دہی مکمل شریعت ہی کا تھا جو دورِ محمدی میں پورا ہوا۔ اسی حقیقت کا انہمار حسب ذیل آیت کریمہ کیا گیا ہے:

الْيَوْمَ أَتَمْلأُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نُعْمَانِي وَرَضِيَتْ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا: آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی رحمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور ایک دین کے پسند کر لیا ہے۔ (ماہدہ: ۱۳)

ظاہر ہے کہ شریعتِ الٰہیہ کی یہ "تدریج" محض نزوی اعتبار سے ہے نہ کارتفاقی عمل کا نتیجہ! کیونکہ انہیاں کرام کو جو ہمی طاوہ بیکاری ملا، جس یہ کسی کے غور و فکر یا ارتقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم از لی اور اُس کے استحکام کا ایک حیرت انگیز منظاہر ہے۔

غرض اس اعتبار سے قدائی قانون اور انسانی قانون کا فرق بالکل نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون میں تجدیلی کی اب تک کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سے خدا ہی معلم و حکمت کا استحکام ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم از لی کے مطابق انسان کو ایک ناقابل تبدیل ضابطہ حیات ضرور عطا کر سکتا ہے۔ اور اس میسان ہیں چونکہ تمام انسانی قوانین ذرع انسانی کو ایک مکمل، بے عیب اور ناقابل تغیر ضابطہ حیات فراہم کرنے میں عاجز و ناکام ہو چکے ہیں، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہم سے دان (سب کچھ جاننے والا) اور لا: دان ہستی کا وجود پایا جائے۔

نئی قانون کا مجرز

اس سلسلے کا تیسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو، میں اسلام کے اس عکس کا ثبوت بھی مل جاتا ہے۔ چنانچہ اہل اسلام کی تیرہ سو سالہ دو روکومتیں انہیں اپنے معاشرتی واجہتی معاملات میں کسی دوسرے دین و مذہب یا دوسری قوموں کے قوانین مستعار لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بلکہ فقہائے کرام نے اسلامی شریعت کی روشنی میں اور اُس کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر کر کروہ تمام تفصیلی احکام و قوانین وضع کر لئے جن کی اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرت کو ضرورت پیش آئی۔ اس اعتبار سے اسلام اپنے تفصیلی احکام و مسائل کی تدوین کے لئے کسی دوسرے قانون کا ہریں منت نہیں ہے۔ لہذا اسلامی قوانین کو دیگر ادیان و مذاہب اور انسانی قوانین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ جس طرح یہ سلسلی مذہب کی عدم کفایت کی بنیاد پر عیسائی ریاستوں کو اپنے معاشرتی، اجتماعی اور تمدنی حوالاتہ یہ رومی قانون (ROMAN LAW) وغیرہ سے استفادہ کرنا پڑتا تھا۔

ان تمام اعتبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت اپنی جگہ کامل اور اعلاہ تر ہے، جو لازوال بنا دوں پر قائم ہے۔ اور یہ تمام خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ ان قوانین کو سیش کرنے والا بجائے خود اپنی جگہ پر کامل اعلاءٰ اور لازوال ہے، جس کے علم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ اُس کے علم میں "ثہراو" بھی ہے اور "اضم" حال اور مستقبل کے احوال و کوائف کا احاطہ بھی۔ اس برقرار قانون کی موجودگی کا یہ ایک منطقی نتیجہ ہے، جو عقل انسانی کو بہوت اور حیرت زدہ کر دینے کے لئے کافی ہے۔

خلاصہ یہ کہ انسانی قانون اور محدائقی قانون میں بنیادی اور جوہری فرق ہے۔ یہ دونوں کیلئے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی قانون خلق اتنے ازل کا بنا یا ہوا قانون ہے جو معقول اور نظری اصولوں پر مبنی ہے۔ اور اس میں اعتدال اور توازن رکھا گیا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ انسان کے بنائے جدید قوانین ہمیشہ اسلامی شریعت سے خوری یا غیر خوری طور پر اخذ و استفادہ کرنے پر محروم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں صرکے مشہور ماہر قانون اور نجح علام عبد القادر رودہ شہید نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "اسلام کا قانون فوجداری" کے شروع میں جو عدۃ

اوہ مکرۃ الاراء بحث کی ہے اُس کا خلاصہ اس موقع پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے مذکورہ بالآخر حقائق
کا بڑے لنسین طور پر اثبات ہوتا ہے اور اسلامی شریعت کی برتری اور اُس کی حیرت انگریز خصوصیات
بالکل بے نقاب ہو کر ہمائلے سامنے آ جاتی ہیں۔

اعتراض کرنے والوں کی دو قسمیں

علامہ عبدالقدار عودہ تحریر کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں شریعت اسلامیہ پر عدم صلاحیت
کا الزام لگانے والوں کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ لوگ جنہوں نے نئی شریعت کا مطابعہ کیا ہے اور
قانون کا۔ اور دوسرا فوج وہ ہے جس نے صرف قانون کی تحصیل کی ہے، شریعت کا علم حاصل نہیں
کیا۔ لہذا یہ دونوں فوجیں اسلامی شریعت پر حکم لگانے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ وہ قانون شریعت سے
بالکل ناواقف ہیں۔

کیا اسلامی شریعت فرمودہ ہو چکی ہے؟

اور ان لوگوں کا نظر یہ ہے کہ چونکہ جدید ضمی قوانین کی بنیاد اُن فلسفیانہ، اجتماعی اور
انسانی نظریات و اعتبارات کی بنیاد پر ہے جو اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے آغاز
قائم کئے گئے تھے، اور چونکہ اس سے ماقبل کے قوانین ان فلسفیانہ بنیادوں سے خالی ہیں، لہذا وہ مجب
آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ لوگ اسلامی شریعت کو بھی اسی نظر پر قیاس کرتے ہوئے اس پر
عدم صلاحیت کا الزام لگاتے ہیں۔ اور غلطی اس لئے ہے کہ انہوں نے انسان کے وضع کر دہ قوانین
اور اسلامی شریعت دونوں برادر بر سمجھ لیا ہے، جب کہ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے
اور دوسری بات یہ کہ انسانی قانون کی ابتدا مختلف قبیلوں اور معاشروں کی ضروریات
کے تحت ہوئی ہے، جس میں کوئی کیسانیت اور باضابطگی موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ اٹھارویں صدی
کے اواخر میں ارتقائی طور پر اُس کو علی، فلسفیانہ اور اجتماعی (سوشل) بنیادیں ھائل ہوئیں، جن کا سابقاً
ادوار میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ ان جدید نظریات کی بنیاد عدل، مساوات، رحمتی اور انسانیت

ہے۔ ان نظریات کی اشاعت کے باعث دُنیا کے بہت سے مالک کے قوانین میں وحدت عمل میں آئی ہے، اگرچہ ہر طبق کا قانون تفصیلی دفعات میں دوسرے سے مختلف ہے۔ مگر اس کے بُکس اسلامی شریعت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ چنانچہ وہ تدریجی ارتقا کے طور پر نہیں بلکہ کیا رگی بُکل شکل میں نمودار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہ مختلف جماعتوں اور مختلف اقوام کے لئے الگ الگ طور پر نہیں بلکہ اس کے لئے یکساں طرح نازل ہوئی ہے کہ اس میں کوئی فقص یا عیب موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

الْيَوْمَ أَحْمَدْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْهِ حُكْمَ زِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ
اَذْسَلَامَ دِينِنَا: آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پر کری دی اور تمہارے لئے اسلام کو بھیشت ایک دین کے پسند کر لیا ہے۔ (ماڑہ : ۳)

ذَبَّحْتُ يَوْمَ الحَمْلَةِ اللَّهُ: اللَّهُ كَبِيرٌ بَاتُوا لَيْلَةَ كَوْثَيْنِ تَبَدِيلَنِي نَهْيَنِ ہو سکتی۔ (یونس: ۶۲) اور اسلامی شریعت کی کاملیت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے ہی دن ان تمام جدید نظریات کے ساتھ وارد ہوئی ہے جن تک انسانی قانون کی رسائلی عصر حاضر میں ہو سکی ہے۔ بلکہ اس باب میں شریعت نے جدید قانون کی نسبت کچھ زیادہ ہی پیش کیا ہے۔ اور اس اعتبار سے انسانی قانون کا نہتہائے کمال شریعت کا نقطہ آغاز ہے۔

شریعت اور قانون کا بنیادی فرق

غرض اسلامی شریعت اور انسانی قانون کے درمیان کوئی مثالثت نہیں ہے۔ بلکہ شریعت اپنے مزاج کے اعتبار سے انسانی قانون سے یکسر مختلف ہے۔ اور یہ اختلاف اساسی طور پر تین طرح کا ہے:

- ۱۔ اول یہ کہ قانون انسان کا وضع کردہ ہے جب کہ شریعت من جانب اللہ ہے۔ لہذا ان دونوں میں اپنے اپنے صانع کی صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ یعنی قانون چونکہ انسان کا بنا یا ہوا ہے

لہ واضح ہے کہ رسالت کے ۱۲۳ اسلامی حصے میں متعدد احکام کا نزول تدریجی طور پر ہوا ہے، مگر جمیع اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت یکبارگی بُکل شکل میں نازل ہوئی ہے۔ شباب

اس لئے اس میں نقص، کروڑی اور تدبیر کی شایاں دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی بنا پر اس میں تبدیلی اور ارتقا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بُلکس شریعت کو بنانے اور ڈھالنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا ان میں خالق عالم کی قدرت و عظمت اور اس کا مکمل نیز آئندہ پیش آنے والے امور کا احاطہ بھی نظر آتا ہے: کیونکہ اس کا عالم ہر چیز اور ہر زمانے کو محیط ہوتا ہے۔ لہذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ارشاد باری ہے :

لَا تَبْدِيلَ لِحَكْمَاتِ اللَّهِ: اللَّهُ كَيْمَانٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ (یونس: ۶۲)

۴۔ دوسری کہ قانون کا مطلب ہے جنبد عارضی قواعد، جن کو سوسائٹی (انسانی معافی) اپنے احوال کو درست کرنے کے لئے وضع کرتی ہے۔ لہذا ایسے قواعد زماںِ حوال کے لئے تو کامیاب کئے ہیں، مگر زماںِ مستقبل کے لئے تاکارہ ہو سکتے ہیں، جب کہ سوسائٹی کے حالات بدل جائیں، مگر اس کے بُلکس شریعت کے قواعد کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے تنظیم جماعت کا باعث بن سکیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ چودہ سو سال گزر چکنے کے باوجود اسلامی شریعت میں اب تک کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکا ہے، جب کہ دوسری طرف علم و افکار کی دنیا ہمیں بدل گئی ہے۔ اور اس قسم کے دائمی قواعد سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، جن کا ذکرہ اس موقع پر طوالت کا باعث ہو گا۔ ان مثالوں کے لئے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔)

۵۔ سومیٰ کہ وہ جماعت یا سوسائٹی ہی ہوتی ہے جو قانون کو وضع کرتی ہے اور پھر اس میں اپنی قوی عادات اور قوی روایات کے ذریعہ اس قانون ہیں رنگ بھرتی ہے۔ اس طرح قانون کی صہل یہ ہے کہ وہ جماعت کے احوال کو منظم کرنے کی غرض سے بنایا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے قانون جماعت کی ایجاد ہے، مگر جماعت قانون کی ایجاد نہیں۔ لیکن، ہمیں جنگِ عظیم کے بعد صورتِ حال بدل گئی ہے، جب کہ وہ حکومتیں جو نئی تحریکات اور نئے نظاموں کی ملکیت ہیں وہ اپنے ملکوں میں بنتے والے مختلف قومیں اور قبیلوں کو مستحقین رخوں پر لے جانے کے لئے قانون کا استعمال اس طرح کر رہی ہیں گویا کہ اس کے ذریعہ میں اغراض کا نفاذ علی میں آسکے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے اشرکی رؤس اور صفتِ کمال کے تمرکز کے

اختیار کیا۔ پھر فاشی اٹلی اور نازی جرمی نے بھی بھی روشن اپنانی۔ پھر اس کے بعد باقی ملکوں نے بھی اسی کی پروپری کی۔ اس اعتبار سے آج قانون کا مقصد سوسائٹی کی تنظیم اور اُس کی ایسی رہنمائی ہے جس کو سوسائٹی کے ارباب پل و عقد اُس کی بھلانی کے لئے مناسب صحیح سمجھیں گے۔ اس کے عکس جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اسلامی شریعت کی سوسائٹی یا جماعت کی ایجاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی جماعت کے ارتقا اور اُس کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے۔ بلکہ وہ ایک خدا تعالیٰ فعل ہے جس نے برجیز کو استحکام بخناہے۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کا مقصد وضعی قانون کی طرح محض عجائب سازی نہیں بلکہ ایک صالح و پاکیزہ جماعت پیدا کرنا اور ایک مثالی حکومت قائم کرنا ہے۔ اسی بناء پر شرعی احکام اپنے نزول کے وقت اُس دور کے معیار سے بہت اونچے نظر آہے تھے اور آج بھی اُن کے بلند معیار کا ہی حال ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں ایسے اصول و نظریات موجود ہیں جن سے آگاہی غیر اسلامی نیکو صدیوں بعد ہو گئی ہے۔ اور بعض ایسے اصول بھی ہیں جن تک رسائی اب تک سرے سے شامل ہی نہیں ہو گئی ہے۔

جدید قانون شریعت سے سچھے

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ ہے کہ درود چاہیں ضمی قانون اپنی اصل سے ہرث کر سوسائٹی کی رہنمائی کرنے لگا ہے۔ اور یہ ایک جدید اصول ہے جو اسلامی شریعت سے مانوذ ہے، جس کا اصول یہ ہے کہ جماعت بنائی جائے اور اُس کی رہنمائی اور تنظیم کی جائے۔ اس طرح ضمی قانون آج اُس نقطہ تک پہنچ سکا ہے جس تک شریعت چودہ موسال پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ اس لحاظ سے ضمی قانون کے

3۔ مطلب یہ آج مختلف ممالک میں وہاں کے سیاسی قائلین پہنچنے اپنے خصوصی انداز و مقاصد پا چند خاص خاص تجویز کیزیں اڑ قانون کے ذریعہ مختلف قبیلوں اور قوموں کو دریان سیاسی وحدت پیدا کرنے کے خواہشمند نظر آئیں ہیں جو طرح کہا ہے مکہمیں "وقوی کی جانب" کے ناپر کسل قبیلے کے قویں بنانے اور انہیں بزرگی و قوت نادار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف قوم کے دریان کی مدد مولی کڈنا فادر کر کے ایک صفتی ہی کی جانب پیدا کرنا نہ ہی اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قبیل کی قوی یا اقلیتیں "شناختوں" کو مکار اہمیں ایک دفعہ تر "قوی دعائے" میں شامل کی جائیں۔ اسی وجہ سے مختلف قوموں کے پرستی اکوٹھائے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا ارشتہ اپنی قوم و قوم اور اپنے مذہب سے بوری طرح کٹ جائے۔ شہاب

اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزبانیں

ماہرین جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا نظریہ دریافت کر لیا ہے تو تم کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نے شریعت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور اس کے سچے سچے چل رہے ہو۔

اسلامی شریعت کے امتیازی خصائص

اوپر اسلامی شریعت اور ضمی و قوانین کے درمیان جو اختلافات دکھائے گئے ہیں ان کے ملاحظہ سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی شریعت حسب ذیل تین خصوصیات کی بنیاد پر وضعی قوانین سے ممتاز نظر آتی ہے :

پہلی خصوصیت یہ کہ اسلامی شریعت وضعی (انسانی) قوانین کی بُرَبْرَی درجہ کمال کو ہمچنی ہوئی ہے۔ اور اس کے اصول و مکالیت سوسائٹی کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہیں، حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لحاظ سے۔

دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی شریعت ضمی و قوانین کی بُرَبْرَی اعلیٰ وارفع ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اصول و ضوابط ہمیشہ سوسائٹی اور جماعت کے معیار سے اونچے ہوتے ہیں، خواہ انسانی سوسائٹی کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔

تیسرا خصوصیت یہ کہ اسلامی شریعت ضمی و قوانین سے ہمیشگی اور دوام کے اعتبار سے ممتاز ہوتی ہے۔ یعنی اس کے نصوص (وضاع احکام و تصریحات) بغیر کسی تغیریات تبدیلی کے ہمیشہ کارآمد اور قابلِ عمل رہتے ہیں، خواہ اُن پر کتنی ہی مدت اور کتنی ہی صدیاں کیوں نہ گز جائیں۔ بالفاظ دیگر وہ کہی از کار رفتہ یا آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتے۔

اسلامی شریعت کی یہ وجہ ہری خصوصیات ہیں جو اس کے خدا اُن عمل ہونے کا نتیجہ ہے۔

شریعت کے ممتاز ہونے کے دلائل

اسلامی شریعت اپنی کاملیت، برتری اور ابتدیت کے اعتبار سے دیگر قوانین سے ممتاز ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں جن اصولوں کو اپنے پہلے ہی دن پیش کر دیا تھا اُن سے انسانی و قوانین موجودہ دور ہی میں آگاہی حاصل کر سکے ہیں۔ جب کہ خصوصیات اسلامی شریعت کے

اسلامی شریعت ناقابل تغیر کروں ہے؟

۲۱

ہر ظریف اور ہر قانونی دفعہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر اسلامی شریعت کے بعض اصول و نظریات کا نتے کرد کیا جاتا ہے:

۱۔ نظریہ مساوات

اسلامی شریعت نے اپنے نزول کے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمام انسان مساوی اور برابر برابر ہیں، جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا حَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْتُمْ كُلَّ مُشْعُبًا وَأَقْبَلْتُمْ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَخْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَبُمْ : لے لوگو! ہمیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہمیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں باش دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز دہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ خُدا کو مانے والا ہو۔ (مجرات: ۱۳)

اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”تمام لوگ برابر ہیں، جس طرح کہ ایک کنگھے کے دانت ہوتے ہیں۔ ایک عنی کو ایک عجھی پر سوائے تقوی کے اور کوئی فضیلت نہیں ہے“ ۴

اسلامی شریعت کا یہ وہ نظریہ مساوات ہے جو بودہ سو مال پہلے پیش کیا گیا تھا۔ مگر ضيقی قانون اس اصول سے صرف ایک صدی پہلے ہی واقف ہو سکا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضيقی قانون نے نظریہ مساوات کو اپنا کر کوئی نیا قانون نہیں پیش کیا بلکہ قانون شریعت ہی کی اتباع کی ہے۔

۲۔ مرد اور عورت کی برابری کا نظریہ

یہ نظریہ اور مذکور مساواتِ عالمہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ مگر اس کی خصوصی اہمیت کی بنابر اس کو الگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ یہ نظریہ شریعت کی انصاف پسندی اور اس کی بدنی بھائی کی واضح دلیل ہونے کے علاوہ حقوق و فرائض کی تقسیم میں اس کی محنت علی کوچھ تھا۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں یعنی قاعدہ ہے کہ حقوق و واجبات کے باب میں عورت مرد کے مساوی ہے۔ یعنی عورت کو بھی اُس قسم کے حقوق حاصل ہیں جس طرح کمر دکھل ہیں۔ اور اس کے ذمہ بھی دیسے ہیں فرائض ہیں جو قسم کے

مرد پر عائد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے سے وہی حقوق ہیں جیسے خود ان پر عائد ہوتے ہیں ۔ (بقرہ : ۲۲۸)

لیکن مردا اور عورت کے درمیان مساوات کے اس عام قابلے کے باوجود شریعت نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے :

وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ : اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے (بقرہ : ۲۲۸)

اور خود قرآن نے اس خصوصیت کی وجہ بھی بتا دی ہے، جس کی بنابر مردوں کو یہ فضیلت دی

گئی ہے :

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِيمَانًا فَضْلَ اللَّهِ بِعَصْبِهِمْ عَلَى بَعْضِهِنَّ وَإِيمَانَ الْفَقَوْمِ

منْ آمُواهِهِمْ : مرد عورتوں پر قائد و نگران ہیں ۔ کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرا سے پر فضیلت دی ہے،

اور اس فہرست میں کوئی مردوں نے عورتوں پر (شادی بیاہ، ہمراہ اونچفکے کے ذریعہ) اپنا مال خرچ کیا ہے۔ (ناء : ۳۲۳)

لہ لفظ قوامونَ، قوام کی وجہ ہے، جو قوام سے مبالغہ کا صرفہ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ **ہو قوام عَلَى** اہلیہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے اہل دعیل کی ضروریات اور ان کے اپنے بڑے کے ہمیشہ دیکھ بھل کرنے والا ہے۔ (جمیع الفاظ القرآن الکریم : ۶ / ۳۲۹، مطبوعہ مصر) شہاب

۲۵ بعض تجدید پسندوں کا ادعا ہے کہ اس آیت کی تحریر میں مردوں کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ محض انفاقی مال کی درجہ سے ہے۔ لہذا اگر کسی دور میں خورتیں کامنے والی ہو جائیں تو مردوں کی یہ فضیلت زائل ہو سکتی ہے۔ گریئے آئندہ کریمہ اس غلط منطق کو باطل کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو فضیلت دی ہے وہ ظفری اور پیدائشی اعتبار سے ہے جو کسی علت کے ناتیجے نہیں ہے۔ اب رامردوں کا عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنا، تو یہ درسری فضیلت ہے، جیسا کہ قرآنی الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا اگر کسی وجہ سے دوسرا فضیلت زائل ہو جائے تو پہلی فضیلت کسی بھی طبع زائل نہیں ہو سکتی، جو مرد کی جسمانی و ذہنی قوت کی بنابر ہے۔ اور اس اعتبار سے عورتیں لاکھ کو شکس کریں، وہ مردوں کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ یہ فرض بالکل حیاتیاتی (BIOLOGICAL) ہے۔ اور اس باب میں فائدہ ہیسے اباحت پسند نہ کوئی یہ اعزاز کرنا پڑا اک " مردا اور عورت کی تشریحی ساخت ایک امر مقرر ہے؟"

ANATOMY IS DESTINY (دیکھئے انسانیکو پیدیا بر مٹائیکا : ۹۰۷ / ۱۹)

ایڈیشن ۱۹۸۳ء) شہاب

اس طرح واضح کر دیا گیا کہ وہ درجہ (جس کی وجہ سے مردوں کو فضیلت دی گئی ہے) وہ مرد اور عورت کے مشترک معاملات میں مرد کے تنظیم اور نگران ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ از رُفَعَةِ شَرِيعَةِ مَرْدِهِ عُورَةٍ پُرَغَّبَ کرنے اور بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح خاندان کے اولین مسئول و ذمہ دار ہونے کی نیشنیت سے خاندان کے شترک امور میں دہنی قائد اور نگران ہونے کا زیادہ مستحق ہے۔ کیونکہ ان امور میں اُس کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اُسی کی بات چلے۔

اس لحاظ سے مرد کو جو اقتدار حاصل ہے وہ اس کی ذمہ داری کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ اس سے بہتر طریقہ سے عہدہ برآئے۔ اور یہ چیز شریعت کے اس عام قاعدے کی دقیق تطبیق ہے جو کہتی ہے کہ ”اقتدار ذمہ داری کی بنی اسرائیل ہے“ اور یہ دہنی قaudر ہے جس کو شریعت نے صاحب اقتدار لوگوں کا

تعلق اُن کے تھت لوگوں سے کھانے کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ اور اس کی اصل یہ حدیث ہے :

كُلُّ حُكْمٍ رَّاجِعٌ وَ كُلُّ حُكْمٍ مَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي زَيْنَتٍ وَ فَجَهَاءٍ وَ هِيَ مَسْتَوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا : تمہیں سے شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اُس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اُس سے اُس کی نگرانی و ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

مردوں کو اگرچہ مشترک معاملات میں عورتوں پر یہی گونہ فضیلت حاصل ہے، مگر مرد کو عورت کے خصوصی امور میں دخل نہیں اور اس پر زور چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلاً کے طور پر عورت اپنے حقوق کی خود مالک ہوتی ہے اور ان میں مرد کی مداخلت کے بغیر تصرف کر سکتی ہے، اگرچہ وہ اس کا شوہر یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

اسلامی شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان یہ مساوات اپنے پہلے ہی دن یعنی چودہ سو سال پہلے ہی قائم کر دی تھی، جب کہ اُس وقت کی دُنیا اس قسم کی مساوات اور ان دونوں کے حقوق و ذائض کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔ اس لحاظ سے مساوات کو ثابت کرنے کے لئے کوئی جماعتی میک موجو نہیں تھا جو شریعت کو ایسا کرنے کے لئے مجبور کرتا۔ بلکہ اس کے برعکاف ضرورت اس بات کی تھی کہ

اسلامی شریعت کی تکیل ایسے اعلیٰ اصولوں کے ذریعہ کردی جائے جو اُس کے کال و دوام کو برقرار رکھ سکیں۔ اسلامی شریعت نے عورت اور مرد کے درمیان مساوات کا جو اصول تسلیم کیا ہے اس کی رفتہ بلندی کا اندازہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق صفحی قوانین نے ان دونوں کے درمیان مساوات کو ائمیں صدی ہیں جا کر تسلیم کیا ہے گھر اس کے باوجود بعض قوام اور اُن کے قوانین اب تک عورتوں کو اُن کے خصوصی امور میں بھی اُن کے شہر دل کی اہمیت کے بغیر تصرف کرنے سے منع کرتے ہیں۔

غرض زیر بحث نصوص کی عمومیت اور اُن کی پچ کی غایت و انتہا کا ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان نصوص (واضح ہدایات) کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ پیش آمدہ مسائل کا احاطہ کرنے سے عاجز رہ سکتے ہیں۔ اور ان نصوص میں جب کمال اور رفتہ کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو ہم بجا طور پر کہ سکتے ہیں کہ شریعت کے نصوص کسی تبدیلی یا ترمیم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔

۳۔ نظریہ آزادی

وہ بنیادی اصول جن کو اسلامی شریعت نے عالم انسانی کے سامنے پیش کیا ہے اُن میں سے ایک حرفیت یعنی آزادی کا اصول بھی ہے۔ اور اسلامی شریعت نے اس اصول کا اثبات بہت بہترین طریقے سے کیا ہے۔ چنانچہ اُس نے آزادی فکر، آزادی عقیدہ اور آزادی رائے کو تسلیم کیا ہے۔ ہم اس موقع پر ان سب پر الگ الگ گفتگو کریں گے۔

۴۔ آزادی فکر

اسلامی شریعت نے آزادی فکر کا اعلان کر کے انسانی عقل کو ادھام و نژادفات اور بادا کی اندھی تقلید اور قوی عادات و خصالیں سے جو خلاف عقل ہوں نجات دلائی ہے۔ وہ اس بات کی اونی ہے کہ جو چیز خلاف عقل ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس موضوع پر بکثرت آیات وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآنْتِلَافِ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ الَّتِي
تَجْعَلُ فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَابُهُ الْأَرْضُ

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ تَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْعَرِ
بَيْنَ النَّسَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّا تَقْوُمْ يَعْقِلُونَ : آسماؤں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے
ہیم پھریں، اُس کشتی میں جو سندھ میں لوگوں کے لئے نفع بخش سامان لے کر جلتی ہے، اُس بارش یا جب کو
الشہزادوں سے برساتا ہے اور اُس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اُس میں قہرہ کے جانداروں کو
پھیلا دیتا ہے، ہواں کے قانون ادل بدل میں اور اُس بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مختزک کیا
ہوا ہے، غرض ان تمام ظاہر من عقلمندوں کے لئے یقیناً (اللہ کے وجود اور اُس کی قدرت و ربوبیت
کی) نشانیاں موجود ہیں۔ (بقرہ : ۱۶۳)

آفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقُتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ دُرِّعَتْ .
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصَبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُيِّخَتْ : کیا یہ لوگ اُنٹوں کا مشاہدہ
نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بنائے گئے ہیں؟ اور آسمان کا کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ اور پہاڑوں کا کہ
وہ کس طرح نصب کئے گئے ہیں؟ اور زمین کا کہ وہ (ابنی پوری گولائی میں) کس طرح پھیلائی گئی
ہے؟ (غاشیہ : ۱۴ - ۲۰)

چنانچہ قرآن لوگوں کو عمار دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنی عقولوں کو بے کار نہ کر دیں، اپنی فکر
کو محطل نہ کروں، غیر دن کی بیجا تقلید نہ کریں، اور ہم و خرافات پر یقین نہ کر لیں اور بلا سوچے سمجھے تو قوی
عادات و روایات کو ضبوطی سے پکار نہ لیں۔ قرآن ان تمام امور میں ایسے لوگوں کی عیب کیری کرتا ہے اور
اس قسم کے لوگوں کو چوباؤں سے تشبیہ دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کا اتباع کرنے لگا۔
جاتے ہیں اور اپنی ذاتی عقل و فکر کو ہم میں نہیں لاتے۔ حالانکہ عقل ہی وہ واحد خصوصیت ہے جس کے
ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انساؤں اور دیگر مخلوقات کے درمیان فرق کیا ہے۔ لہذا انسان جب اپنی عقل کو محطل
کر دیتا ہے تو وہ چوباؤں کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے :

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنَ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَقْبَلُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْنُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولُو الْعَيْنِ كَمَا لَأَنَّعَامَ بَلْ هُمْ

اسلامی شریعت علم اور عقل کی بیزان میں

اَصْلُ هُوَ لِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ : اور ہم نے دونوں کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کئے ہیں جن کے دل توہین گروہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی اسکھیں توہین گروہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو موجود ہیں گروہ ان سے مسنتے نہیں۔ وہ چوباؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ یہی لوگ غافل (دلب پرواہ) ہیں۔ (اعراف : ۱۴۹)

۵۔ آزادی عقیدہ

اسلامی شریعت ہی وہ اولین شریعت ہے جس نے آزادی عقیدہ کو جائز قرار دیا اور اس نظریکی حفاظت و حمایت میں کوئی کسر نہیں چھپوڑی۔ چنانچہ اسلامی شریعت کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے لئے جو عقیدہ چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اور کسی دوسرے شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا عقیدہ چھوڑنے یا کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ (ہاں البتہ دوسروں کی رہنمائی کی خاطر حق بہت کی وضاحت کی جاسکتی ہے یا انہیں متنبہ کیا جاسکتا ہے) چنانچہ ارشاد باری ہے :

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ : میں یہ کہی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ (بقرہ : ۲۵۶)
فَذَّبَرَ قَهْلَةً إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُحِيطٍ : آپ صیحت کیجیئے
 آپ تو صرف صیحت ہی کرنے والے ہیں، ان پر کوئی داروغہ نہیں۔ (غاشیہ : ۲۱-۲۲)

وَمَا عَلِيَ الرَّسُولُ إِلَّا بَلَّغَ الْمُبْلَغَ : اور رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر سمجھا دینا ہے۔ (نور : ۵۲)

اسلامی شریعت نے لوگوں کے لئے خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر ایک کے لئے آزادی عقیدہ کی ضمانت دے کر بینظیری کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس نے بلا اسلامیہیں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی اس بات کی آزادی عطا کی ہے کسی بھی اسلامی مملکت میں وہ اپنے دین، مسلمک اور عقیدے کا اپنیا کر سکتے ہیں اور اپنے دینی فرائض کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ اپنے دین کے قیام اور اس کی تعلیم کے لئے عبادت کا ہوں اور مدرسون کو بغیر کسی حرج کے قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی مالک میں یہود و نصاریٰ کے لئے ان تمام امور میں کامل آزادی حاصل تھی۔

۶۔ آزادی رائے

اسلامی شریعت نے اہل رائے کی آزادی کو جائز و مباح اور ہر انسان کا حق فراز دیا ہے۔ بلکہ اس کو انسان پر ہر اُس معاطی میں واجب فرار دیا ہے جس میں اخلاق اور مصالح عامہ تا خوب ہوں اور جن کو شریعت منکر یعنی ناپسندیدہ چیز تھی ہو۔ جیسا کہ ارشادِ ربیٰ ہے :

وَلَتَكُنْ قِنْتَمُ أَمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرْؤُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِنَهْوَنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِّحُونَ

اور ضرور ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور انہیں معروف (دین و عقل کی نظر میں پسندیدہ امور) کا حکم کرے اور انکر (ناپسندیدہ بالوقت) سے روک۔ اور یہی لوگ فلاں پانے والے ہیں۔ (آلِ ابرٰن : ۱۰۳)

اور حدیث شریف میں آیا ہے : ”تمیں سے جو کوئی بڑائی کو دیکھے تو چاہئے کہ اُس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اُس کی مذمت کرے۔ اور اگر اس کی ہی طاقت نہ ہو تو اس کا کو اپنے دل میں بُرًا سمجھے۔ مگر یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے“

ہر انسان کو الگچہ اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اہل رائے کرے اور زبان قلم کے ذریعہ اس کی مدافعت کرے، اگر یہ مفترض مطلق طور پر نہیں بلکہ مقید ہے کہ وہ جو کچھ کہیے یا لکھے وہ عام آداب، اخلاقی فاضلہ اور مذاہج شریعت کے خلاف نہ ہو۔

یہ اسلامی شریعت کا وہ نظریہ حریت ہے (ابن تینوں اقسام کے ساتھ) جس کو اُس نے ایسے وقت پیش کیا جب کہ لوگ اس بالی میں اپنی ذاتی عقل سے کچھ بھی سچ نہیں لہے تھے۔ بلکہ صرف انہی باتوں کا چرچا کیا کرتے تھے جن کو انہوں نے اپنے باپ دادا سے دراثت پایا تھا۔ اور ان کی نظر میں یہ ایک فطری بات تھی کہ انسان اپنے عقیدے کو بدلتے پر مجبور کیا جائے۔ اور اُس دو میں آزادی قول اور آزادی نکر کا حق صرف صاحب اقتدار اور طاقتور لوگوں ہی کو حاصل تھا۔

غرض اسلامی شریعت نظریہ حریت کو پیش کرنے میں ضمیم و قوانین سے گیارہ صدیاں آگئے ہے، کیونکہ ضمیم و قوانین کے ذریعہ اُس کا آغاز اتحادیوں صدی کے اواخر اور اُنیسویں صدی کی ابتداء ہی میں

ہو سکا ہے۔ اس سے پہلے ان قوانین میں اسنے ظریبہ کا تصور دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ تایکنی حقوق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بکس ایسے مفکریں اور اصلاح پسندوں کو سخت تکلیفیں دی گئیں جنہوں نے اصحاب اقتدار کے نظریات پر تنقید کی۔ مگر اپنے یورپ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ وہ محترم کے اولین علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ شریعتِ اسلامیہ سے جہالت کا نتیجہ ہے۔

کے۔ طلاق کا نظریہ

نوٹ: صاحبِ کتب نے اس موقع پر دیگر کئی نظریات بھی بیان کئے ہیں، جن میں اسلامی شریعت کو سبقت واولیت حاصل ہے۔ مثلاً نظریہ شوری، نظریہ تحريم، نظریہ معابرات اور تحریری ہشادت وغیرہ۔ لیکن یہ سب نظریات اس وقت موضوع بحث سے خالی ہیں، اس لئے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ نظریہ طلاق اور نظریہ تعدد و اندوادج کا اس موضوع سے جو کنکر گہرا تعلق ہے اس لئے اب اس موقع پر صرف انہیں دو کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

اسلامی شریعت نے مرد کے لئے جائز قرار دیا ہے کہ وہ اپنی منکوڑ کو طلاق دے دے، خواہ اُس سے مُباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، اگرچہ اس بات کا کوئی ظاہری ثبوت بھی نہ ہو کہ رشته نکاح کی وجہ سے مرد کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ اس لحاظ سے یہوی کو طلاق دینے کا دار و مدار مرد پر ہے یعنی

اور شریعت نے عورت کو ہبھی اجازت دی ہے کہ وہ قاضی سے مطالبہ کرے کہ وہ اُس کے شوہر سے اُسے طلاق دلوادی، جب کہ وہ یہ بات ثابت کرنے کے لئے اُس کے شوہرنے اُسے جسمانی یا روحانی طور پر کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ یا یہ کہ اُس کا شوہر اُس کے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے جن کو شریعت نے اُس کے ذمہ واجب قرار دیا ہے۔

مرد اور عورت کے درمیان حق طلاق کے استعمال میں جو اساس فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو اولادوں کی معاملات میں کہنے کا بڑا اور بزرگان ہونے کا حق حاصل ہے۔ کیونکہ تہذیبی اور دادی زندگی کا سارا باہر بوجہ شرعاً کرتا ہے۔ دہی یہوی کے مہر اور شادی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ دہی شادی کے دن ہی سے یہی کے عہد اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لئے ہماری کتاب "طلاق: اسلام اور عالمی قوانین میں" دیکھنی چاہئے۔

اخراجات کا کفیل ہے، اگرچہ اس کی بیوی ابھی اُس کے لئے متنقل نہ ہوئی ہے اور وہی اپنی بیوی اور پرچوں کے ننان و نفقہ کا ذمہ دار ہے۔ لہے لہذا ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کے پیش نظر اُس سے طلاق کا حق مطلق طور پر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ایک دوسری حیثیت سے عورت کے لئے بھی مبنی برصلحت ہے کہ اگر مرد کو طلاق کے اسباب بیان کرنے پر مجبور کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کی نیک نامی پر دھبہ لگ جائے اور اس کا عقد ننانی مشکل ہو جائے۔ اب رہا عورت کا معاملہ تو اس کو طلاق کا حق شرط طور پر طاہی، جب کہ اُسے کوئی مادی یا معنوی نقصان پہنچے۔ اس اصول میں بہر حال مرد کو ایک درجیت دش جانے کے اعتبار سے مطابقت نظر آتی ہے۔ اور عورت کو بھی مرد کی ایذا سانی سے بجا دی کی ہو رہت ہو جو دش ہے۔ بہر حال شریعت نے مرد کو اگرچہ طلاق کا غیر شرط و طلاق عطا کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کے بال مقابل ایسی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں جن سے بیوی کا تحفظ اور اس کے مقاد کی حفاظت ہوتی ہے۔

طلاق کی کٹی صورتیں ہو سکتی ہیں: (۱) طلاق عورت کا نہتین ہونے اور اُس کے ساتھ ہم بستر ہونے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ (۲) یا اسی بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کا مہر تو متعین ہو گیا ہے مگر اس کے ساتھ ابھی بھر کی نہ ہوئی ہو۔ (۳) یا بھی ہو سکتا ہے کہ مہر بھی متعین ہو اور یہ بستری بھی ہو چکی ہو۔ تو ان سب صورتوں میں شریعت نے مرد کے ذمہ مہر لازمی قرار دیا ہے جس سے مفرکی کوئی صورت نہیں ہے۔ شریعت کے اس التزام سے جہاں ایک طرف عورت کے لئے معاوضہ حاصل ہوتا ہے تو دوسری طرف مرد کے لئے ایک انتہاد کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ وہ طلاق نہیں سے پہلے اچھی طرح سوچ بچا کر لے۔

قرآن مجید میں اس بصرتوں کے لئے الگ الگ احکام موجود ہیں۔ (دیکھئے سورہ بقرہ):

۲۴۷۔ ۲۴۸ اور نساء: ۲۰ اور پھر عدالت کے دوران یہی کاناں و نفقہ بھی مرد ہی کے ذمہ ہے، جو عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حل (طلاق: ۲۸) اور غیر حاملہ ہونے کی صورت میں جیسے، (قدر: ۲۷)

علاء اسلامی قانون کے مطابق تمام اخراجات، ذمہ داریاں اور فرائض مرد ہی پر عاید ہوتے ہیں، جو بندوستانی معاشرے میں ایک سمجھی بسی بات معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر دیگر قبور میں جوں کی بنابر اصل اسلامی قانون تقریباً منع کر رہ گیا ہے۔ مگر اب اسلامی قانون کو صحیح طور پر سمجھتے اور اس پر سمجھتے اس ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شہاب

طلاق کے سلسلے میں جو حکماً وارد ہوتے ہیں ان کے لاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حرمت اور پیک کے اعتبار سے اپنی آخری حدود کو چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی بنابردارہ ہر دو اور ہر ٹک کے لئے قابل عمل ہیں۔ لہذا ان میں کسی قسم کی ترسیم یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دو صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی تازگی، صلاحیت اور باہری آج بھی برقرار ہے۔ اور وہ بالکل تازہ دم نظر آتی ہے۔

طلاق کی مقبولیت

غرض اسلامی شریعت نے چودہ سوال پہلے ہی میان یوں کو طلاق کا حق دے دیا تھا۔
 نیز ہذکورہ بالاقوی اور منصفانہ ضمانتوں کے ذریعہ اس کا احاطہ کر دیا تھا (تاکہ اس سلسلے میں کوئی بے انصاف یا کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے)۔ مگر موجودہ متعدد دُنیا اس حق سے بیسویں صدی میں پرست مقواوف ہو گئی ہے۔ اور بعض متعدد تو میں تو اسلامی شریعت پر اعتراض کرتی تھیں کہ اُس نے حق طلاق کو کیوں تسلیم کیا ہے؟ مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور علوم و فنون کی ترقی ہونے لگی اور عقولوں کے درتیچے کھل گئے تو اہل علم اور فکر کرنے کو نظر آیا کہ طلاق کا قانون میان یوں کے لئے ایک نعمت ہے، جو ناکام ازدواجی زندگی اور نفسیاتی اذیتوں سے نجات پانے کا واحد راست ہے اور طلاق ہی وہ قانون ہے جو ازدواجی زندگی کی ناکامی کی صورت میں زوجین کی دوبارہ سعادت کا باعث بنتا ہے اور ان دونوں کی انفرشوں اور شیطانی دوسروں سے محفوظ رکھتا ہے۔

یہ بیکنر اشتعلانی نے تمام انسانوں کی فطرت کی کام طور پر نہیں رکھی ہے، بلکہ ذہنوں اور بیعتوں میں بہت بڑا اختلاف رکھ دیا ہے، اس لئے یہ واضح اختلاف کبھی کبھی مراد و عورت کی مدد اٹی کا باعث بن سکتا ہے اور اس صورت میں ازدواجی بندہن کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے موقع پر ان دونوں کے لئے قانونی طور پر مدد اٹی کی تجویز رکھنا فائدہ مددگار کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے طلاق کا قانون ایک لطفی اور سائنسیک قانون ہے۔ اور اشتعلانی چوکر خالیں کائنات ہے اور وہ اپنی تخلیق کے تمام بھیدوں سے آگاہ ہے، اس لئے اُس نے اس بڑی قانون کو اپنی شریعت میں ایک ضابطہ حیات کے طور پر رکھا ہے۔ شہاب

چنانچہ آج متعدد اور ترقی یافتہ قوموں کا کوئی بھی وضعی قانون طلاق کی دفعہ اور اُس کے اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ قوانین طلاق کے اصول کو تسلیم کر لینے کے باوجود اُس کے تفصیلی نفاذ میں مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی بعض قویں طلاق کے دائرے میں وسعت دیتی ہیں تو کچھ قویں اس کو حدود کرتی ہیں۔ چنانچہ روئی قانون مرد اور عورت دونوں کے لئے بغیر کسی قید باشرط کے طلاق کو بخشنہ پر جائز قرار دیتا ہے۔ شریعت نے جس اصول کو صرف مرد کے لئے وضع کیا تھا اُس کو روئی قانون مرد اور عورت دونوں کے لئے روکھتا ہے۔ اس کے بعد اس امر پر کے بعض جو بولوں کے قوانین مرد اور عورت دونوں کو مطابق طلاق کا حق عطا کرتے ہیں جب کہ طالبہ کرنے والا زوجین میں سے کوئی ایک) یثبات کر دے کہ اُس کے شرکیہ زندگی (زوجین میں سے کوئی ایک) نے اُس کو مادی یا معنوی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ قوانین اُس اصول سے مخالف ہیں جس کو شریعت نے عورت کے لئے روکھا تھا۔ (جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے) مگر اس دفعہ کوئی کریہ مالاک مرد اور عورت دونوں کو اس کے تابع کرتے ہیں۔^۷

ایسی طرح اکثر ضمی قوانین محدود دائرے میں اوصیہن اسباب کی بنابریاں یوں ہیں سے کسی ایک کی طلب کی بنابری طلاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قوانین مرد اور عورت پر وہ فہم لاگو کرتے ہیں جس کو شریعت نے عورت پر لاگو کیا تھا، لیکن وہ بھی اسbab طلاق اور اُس کے دائیے کو حدود کرنے ہوتے ہوئے۔

بہر حال تیرہ صدیاں گزر جانے کے بعد عصرِ حدیث نے شریعتِ اسلامیہ کے قانون طلاق کا اعتراض کیا اور اس کو اپنایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بیسویں صدی گزر نے سے پہلے ہی وضعی قوانین جواز طلاق کو اور بھی سمجھ کر دیں اور شریعت کے نظریہ کو مکمل طور پر اپنالیں۔

^۷ اس لحاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق ایک ترقی یافتہ قانون ہے، جس کی اہمیت و افادیت سے موجودہ ترقی یافتہ دوری و اوقاف و آگاہ ہو سکتا ہے۔ مگر انسانی علم و تقلیل چونکہ ناقص ہیں اس لئے وہ ان قوانین کا اعتراض اور اس کا نفاذ بھی ناقص طور پر ہی کریں گے۔ شہاب

ابہم بیبات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جس وقت شریعت نے نظر ٹھانک کو پیش کیا، اُس وقت دنیا اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔ لیکن شریعت میں اس نظریہ کا وجود شریعت کی تکمیل ہوئے قبضی تھا، کیونکہ ایک کامل اور دائمی شریعت ایسے نظریات کی حاجت نہ رہتی ہے۔ اور اس قانون کے ذریعہ سوائیں کامیاب طریقہانا اور اُسے ترقی و کمال کی شاہراہ پر ڈالن مقصود ہے۔

۸- تعددِ ازدواج کا نظریہ

اسلامی شریعت نے اپنے نزول ہی کے دن سے تعددِ ازدواج (POLYGAMY) کو جائز قرار دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہہ دیکھ سے زیادہ بیویوں کی ہوتی میں ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کی الہیت اپنے آپ میں پاتا ہو۔ مگر جب اُسے یقین ہو جائے کہ وہ ان کے درمیان علیل و انصاف قائم رکھنے کی سخت نہیں رکھتا تو اس کے لئے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ وہ چار ہی بیویاں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے :

فَالْيَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ يَخْفَقُمُ الَّذِ
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً : جو عورتیں ہیں پسند آئیں انہیں سے دو دو، تین تین اور چار چار سے
نکاح کرو۔ اور الگ تمہیں اندر لیشہ ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی
ہے۔ (نساء : ۱۳)

اسلامی شریعت نے تعددِ ازدواج کو جائز قرار دیا ہے تو اس کی دو وجہات ہیں: ایک تو اس میں خود اس کا اپنا مخصوص مزاج و فلسفہ ہے اور دوسرے وہ انسانی طبیعت کے ہی طلاق ہے۔ نیز اس کے علاوہ وہ مقصدِ ازدواج سے بھی ہم آہنگ ہے۔

تعددِ ازدواج کے سلسلے میں شریعت کی منطق یہ ہے کہ پوچھ شریعت نے زنا کو کیسے حرام کر دیا ہے اور اس کے مرتکب کے لئے سخت سزا تجویز کی ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دیا جائے، تو اس اعتبار سے نامناسب تھا کہ شریعت ایک طرف زنا کو لوگوں کے لئے حرام بھی کرنے اور دوسری طرف انہیں زنا کی جانب بڑھنے بھی دے۔ (ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری طریقہ ہوتا۔ جب ان پر ایک جانب سے

بندش عائد کی جا ری ہے تو دوسرا طبیعی و اجتماعی ضرورتوں کے تحت کوئی دوسرا مقابل راستہ گھلاؤ ہونا چاہئے) اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ تعدد ازدواج کی محنت لوگوں کو زنا کی طرف مائل کرتی ہے۔ (لہذا زنا کی محنت کا واحد مقابل کثرت ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا جواز ہونا چاہئے) اور واقعہ کے لحاظ سے یہ بات اس طرح صادق آتی ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اور جبکہ جنگیں ہوتی ہیں تو ان دونوں جنسوں کے درمیان یہ فرق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک سے زیادہ بیویوں کی جماعت کی وجہ سے بہت سی عورتیں بنے بخل رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت کا نکاح کی استعداد کے باوجود بخار سے محروم رہ جانا بہت سے مفاسد پیدا کرنے کا باعث بتتا ہے اور وہ غلط راہوں پر بخل سکتی ہے۔

اسی طرح مرد اور عورت دونوں جنسی عمل کی استعداد کی حیثیت سے بھی مختلف ہیں۔ عورت تو اس حالت میں ہر وقت مرد کی آنکھیں میں جانے کے لئے تیار نہیں رہتی۔ کیونکہ وہ ہر مرسمیہ متقطع طور پر ایک سہ ہفتہ تک حیض کی حالت میں رہتی ہے۔ او کبھی کبھی حیض کی یہ حالت دو ہفتے بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس حالت میں جماعت حرام ہے۔ اسی طرح عورت کو بچہ ہونے کے بعد نفاس کی حالت میں بھی، جو عموماً چالیس دن ہوتی ہے، جماعت حرام ہے۔ اسی طرح محل کی حالت میں بھی عورت کی یہ استعداد کمزور رہتی ہے۔ مگر ان تمام حالتوں میں مرد کی استعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہذا اگر مرد پر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منحر قرار دیا جائے تو یہ چیز بہت سوں کے لئے زنا کا دروازہ کھولنے کا باعث ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے افراد ایام حیض و نفاس اور محل کی حالت میں اپنی جنسی جاذبیت پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ لہذا اسلامی شریعت نے انسانی طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے کثرت ازدواج کو مشروط طور پر جائز قرار دیا ہے۔ (یعنی ہر ایک کے لئے ضروری و لازمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ چند شرطوں کے ساتھ صرف ایک اجازت ہے)۔ کیونکہ اس امتحان میں اگر دس یا اس افراد کا میاب بھی ہو جائیں تو یہ کوئی دل افراد کی لغزش کا امکان ہے۔ لہذا شریعت نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں کو امتحان گاہ کی بھٹی میں جھوٹکے۔

اس کے علاوہ بعض اوقات پہلی بیوی کا پچھہ نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسرا شادی کرنی

پڑتی ہے۔ (اس کے علاوہ اور بھی بہت بیش صلحتیں ہیں جن کو طوالت کے خوف سے نظر انداز کیا جاتا ہے)

یہ ہے کہرت ازدواج کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا نظریہ جو معاشرتی نقصانات اور خرابیوں کو دور کرنے، عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنے اور اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی غرض سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ کہرت ازدواج کے سلسلے میں جو قرآنی نص (واضح بیان) ہمارے سامنے موجود ہے وہ انتہائی درجہ عالم اور لچکدار ہے۔ اور یہ بیان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جس طرح چودہ سو سال سے محفوظ ہے، اسی طرح آئندہ بھی اس کی صلاحیت انشاء اللہ محفوظ اور کار آمد رہے گی۔

یہ بھی واضح ہے کہ اس "نص" کو شریعت نے جماعت یا سوسائٹی کی حالت سے مطلقاً ظاہر کرنے کے لئے پیش نہیں کیا تھا۔ کیونکہ دورِ سالت میں اہل عرب کہرت ازدواج کو غیر معمین طور پر جائز قرار دیتے تھے۔ لہذا وہ بیویوں کی تعداد کو محدود کرنے پر خوش نہیں تھے۔ بلکہ اس حکم کے نزد کے بعد انہیں صرف چار بیویوں پر اتنا کرتے ہوئے باقی بیویوں کو طلاق دینے پر مجبور ہوتا پڑتا۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ شریعت نے اس حکم کے ذریم جماعت و سوسائٹی کا معیار بلند کرنا چاہا ہے۔ کیونکہ اس کا وجود ایک دائمی اور کامل شریعت میں ضروری تھا، جو کسی ترمیم و تبدیلی کو قبول نہ رکھتی ہو۔

تعدد ازدواج اور عصر حاضر

کہرت ازدواج (ایک سے زیادہ بیویاں کرنا) کے سلسلے میں شریعت کا نظریہ آن نظریات میں سے ہے جن کا اعتراف ضمیم قوانین نے اب تک نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ نظریہ زمانہ قدیم ہی سے یورپی قوموں کے لئے عجیب و غریب نظر آتا رہا ہے، جس کی بنابرودہ اسلام پر اعترافات کرتے رہتے ہیں۔ بیگر آج صورت حال بدلتی ہے۔ اور یورپیں علماء اور مصلحین نیز ان کے مؤقف اخبارات میں اب اس قانون کے بالے میں نرم گوشہ ظاہر ہونے لگا ہے۔ اور ہر ہو ہو گتا ہے کہ وہ دن قریب آگیا ہو جس میں ضمیم قوانین شریعت کی اس دفعہ کو پوری طرح اپنالیں۔ کیونکہ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء-۱۹۱۹ء)

اور دوسرا جگہ عظیم (۱۹۳۹ء۔ ۱۹۴۵ء) دونوں نے اس تھوڑا کو قبول کرنے اور احوال کو سازگار بنا کے مسلسلے میں بہت بڑا احوال ادا کیا ہے۔ ان دونوں جنگوں میں مردوں کی ایک بڑی تعداد کا آگئی اور عورتیں کثیر تعداد میں بوجہ ہو گئیں۔ اس طرح عورتوں کی تعداد مردوں سے نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے۔

اوپر کی بات تو یہ ہے کہ صرف جنگلیں ہی اس مسلسلے میں بنیادی بہبہیں ہیں، جنہوں نے اہل و رہ کو کثرتِ ازدواج کے جواز میں غور کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے متعدد اسباب ہیں جن میں سے ایک حصہ مختلف سے "دوسی" کی کثرت اس طرح ہو گئی ہے کہ ایک ایک شخص کی کئی کئی "گرل فرینڈ" ہوتی ہیں جو اس کی مردانگی، عنایت اور مال میں اُس کی بیوی ہی کی طرح برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ دوسرے سب زندگی کی کثرت اور اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے جرأت ہیں۔ چنانچہ حرامی بچوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ اب ذلت کے خوف سے نوزائیدہ بچوں کو سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے، یا کنواری مائیں اپنا حل گر کر لانہ میں مسلط کر دیتی ہیں۔ (اور یہ سب مانع حل ادویات اور مانع محل حیلوں کی کثرت کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ حرامی بچوں کی تعداد اور بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی)۔ تیسرا سب فطری طور پر دنیا میں عورتوں کی زیادتی ہے۔ اور ان کی ریخواہش اور جائز ضرورت ہے کہ وہ بھی قانونی طور پر بیویاں اور مائیں بنیں۔ اور چوتھا سب یورپی قوموں میں واضح طور پر سل انسانی کی کامیٹی ہے۔

یہ اور ان جیسے اور بھی اسباب و محکمات میں جنہوں نے ارباب نگر کو کثرتِ ازدواج کے جواز کے بالے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیونکہ اس مسلسلے میں کثرتِ ازدواج ہی ان تمام خرابیوں اور

اجتماعی امراض کا فطری علاج ہو سکتا ہے۔^۶

حامل بحث

ان واقعات اور ان حقائق و معارف سے بخوبی ثابت ہو گی کہ قانونی اور دینوری حیثیت

۶۔ ملخصہ از التشریع الجنائی الاسلامی، صفحات ۱۲۔ ۵۵، اس ترجیحے اور خلاصہ میں کہیں کہیں خفیف ماضر بھی کیا گیا ہے۔

اسلامی شریعت کو ضمی یا انسانی قوانین پر تقدّم، اولیت اور برتری حاصل ہے اور ان کی جدّت و تازگی میں اب تک کوئی فرق نہیں آسکا ہے۔ بلکہ ترقی یافہ قومیں اور ان کے قوانین را برابر اسلامی شریعت و قانون سے اخذ و استفادہ کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسلام کے سایے میں پناہ لینے پر مجبور نظر آتی ہے میں لیکن حقیقت تو بہر حال حقیقت ہے، خواہ کوئی اس بات کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ تاریخی واقعات اپنی جگہ پر تاریخی حقائق کے حامل ہوتے ہیں۔ غرض موجودہ ترقی یافہ قوموں نے ایک چودہ سو سال "پڑانے" قانون سے اخذ و استفادہ کر کے اس کی جدّت و تازگی اور اس کی برتری و معقولیت پر مُہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اور اس اعتبار سے اسلامی شریعت یا اسلامی قانون پر کہنگی کی پڑھائیا کہ ہمیں پوچھتیں۔ بلکہ زمانے کی ترقی و تقدّم کے باعث اس میں ازید نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا اور علوم و فنون کی ترقی کے باوجود اسلامی قانون کی ضرورت و اہمیت اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ہی چیز اُس کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ انسان کے بنائے قوانین برابر بدلتے رہتے ہیں اور فدائی قوانین کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اُس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامی شریعت و قانون میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی دکھائی دیتی ہے، تو پھر یہ بات آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی شریعت خداۓ عالم کی جانب سے ہے۔ لہذا اب جو لوگ خداۓ قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ نہ صرف خداۓ قانون اور اُس کے مزاج و فلسفے سے ناواقف ہیں، بلکہ خود ضمی قوانین اور ان کے اصول و فلسفے سے بھی ناواقف ہیں۔ اور جو لوگ ان دونوں کی اصلیت سے ناواقف ہوں اُنہیں اس معاملے میں بولنے اور لب گشائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

یر بڑی عجیب بات ہے کہ آج تک کے بہت سے "دانشور" اسلامی شریعت کو بخود غلط طور پر ایک "دقیانوسی قانون" تصور کر کے اس میں ترمیم و تبدیلی کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ مگر جیسا کہ اُپر کے مباحثت سے ظاہر ہو گیا اسلامی شریعت کی کوئی بھی شق اور اس کی کوئی بھی دفعہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی قانون ہی وہ واحد قانون ہے جو موجودہ دنیا کے تمام

قوانين میں کامل، برتر، کار آمد اور ابدی و سرمدی نظر آتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب دنیا آہستہ آہستہ اُس کے اس ابدی قانون سے افزا و استفادہ کرنے لگی ہے۔ حتیٰ کہ جدید طبقہ کی طرف سے جنا اسلامی قوانین پر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے لیکن قانون طلاق اور قانون کثرت ازدواج، ان کی اہمیت و افادیت بھی اب چھیدیں نے تسلیم کرنا شروع کر دی ہے۔ طلاق کے بالے میں تو ظاہر ہے کہ انسوؤں اور بیسوں صدی میں اکثر رقی یافہ ملکوں نے اس کو کسی نہ کسی صورت میں اختیار کر لیا ہے۔ اور ہم بخواہے کہ کچھ مدت کے بعد اسلام کے قانون طلاق کو مکمل شکل میں قبول کر لیا جائے۔ کیونکہ یہ موجودہ دور کے بہت سے یچیدہ مسائل اور معاشرتی خرابیوں کا ایک فطری اور سائنسی حل ہے۔

واضح ہے کہ قانون طلاق کو اصولی طور پر تسلیم کر لینے کے باوجود آج بہت سی قوموں میں عملًا اس کے حصول کی مشکلات یا یچیدگیوں کے باعث بہت سے خاندان جہنم کا نمونہ بننے ہوئے ہیں۔ اور اس باب میں ہندو معاشرے کی مثال سب سے نمایاں ہے، جو جہیز کے خوفناک اور بے رحم شخصوں میں جکڑا ہوا بلبارہ ہے۔ چنانچہ آج ہندوستانی معاشرے میں بہت ہے: "اموات جہیز" حقیقتاً "اموات طلاق" ہوتی ہیں۔ کیونکہ طلاق کی آسانیاں حاصل نہ ہونے کی وجہ سے (جس طرح کہ اسلام نے اس کو آسان بلکہ سیاں بیوی کا ایک پریل مسئلہ قرار دیا ہے) ناپسندیدہ عورتوں سے چمٹکارہ حاصل کرنے کے لئے انہیں جلاکر یا گلا گھوٹ کر رار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو آسانی کے ساتھ خود کشی کا کیس ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اگر طلاق کی ہمچنین حاصل ہوں تو پھر ہزاروں عصوم عورتوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے قانون طلاق حقیقتاً "قانون زندگی" ہے۔ مگر جو قوم اپنے لئے بجائے زندگی کے موت ہی کو ترجیح دیتے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ صاری دنیا بھی مل کر اس کو بچا نہیں سکے گی۔

فاعتبر وا۔

اب رہا معاملہ کثرت ازدواج کا تو یہی ایک فطری اور سائنسیک قانون ہے، جس کے باعث اب مغلکین اور دانشوارین یورپ نے اس بالے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے اور جلدیا بدری اس مسئلے میں رائے عامہ بدلتے والی ہے۔ لہذا جو اسلامی قوانین نوع انسانی کے لئے حقیقتاً مفید اور

کارآمد ہیں اُن کے بالے میں خالفین اسلام اور متعصب مستشرقین کے گراہ کن پروپگنڈے سے متاثر ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا نا ایک غیر عقول رویہ ہے جس کو سوائے تعصب کے اور کوئی نامہیں دیا جاسکتا۔

فرع انسانی کو چاہئے گلاس باب میں کسی بھی قسم کے تعصب اور انہی تقلید کے دائرے سے بچل کر گھٹے ذہن و دماغ کے ساتھ اسلامی قانون اور اس کی عقولیت کا مطالعہ کرے اور اس کی حکتوں اور مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسلامی قانون دنیا میں انسانیت کے لئے درحقیقت آبی حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی بناء پر اسلام عالم بشریت کو اس خیر اور بھلائی کو اپنانے کی دعویٰ دیتا ہے، جس میں ساری انسانیت کا بھلاہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد پوری فرع انسانی کی ہدایت و رہنمائی ہے۔ غرض اسلامی قانون ہی وہ واحد خدا تعالیٰ قانون ہے جو اورچخ نجح سے پاک ایک متوازن اور فطری قانون ہونے کے باعث پوری فرع انسانی کے لئے امن و سلامتی کا باعث بن سکتا ہے۔

قُدْجَاءَ كُمْ بَصَارُ مِنْ تَرِكْمُ هَ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفِسِهِ هَ
 وَمَنْ عَيَّ فَعَلَيْهَا : (لوگ) تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل پہنچ چکی ہیں
 لہذا جس نے انہیں صحیح طور پر دیکھا تو اس کا فائدہ خود اُسی کو ہو گا۔ اور جو انہا بنا تو اُس کا دال
 بھی اُسی پر ہو گا۔ (انعام : ۱۰۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُبِينًا : لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آچکی ہے اور یہم نے تمہارے پاس
 ایک نُورِ رُوش (قرآن) پہنچ دیا ہے۔ (نساء : ۱۴۲)

فُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ هَ فَمَنْ اهْتَدَى
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفِسِهِ هَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا هَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِوَكِيلٍ : کہہ دو کہے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق ہات پہنچ چکی ہے۔

اسلامی شریعت ناقابل تغیر کروں ہے؟

۵۹

اس لئے اب جو کوئی راہ یابی پائے گا وہ اپنے بھلے کے لئے پائے گا۔ اور صحیح راستے سے بھٹک جائے گا تو اس کا نقصان اُسی پر ہو گا۔ اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ (یونس : ۱۰۸)

یہ عالم انسانی کے لئے خلاٰقِ عالم کا واضح اور دلوك فیصلہ ہے کہ اگر انسان، کو اپنی بھلائی اور خیر مطلوب ہے تو خدا کی بات مانے اور اُس کے قانون کو احتیار کرے۔ وہ قانون جو نہ صرف حیات بخش ہے بلکہ ایک صلح اور پاکیزہ معاشروں کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کوئی دقیق اُنسی یا از کار رفتہ قانون نہیں بلکہ ایک علی اور سائنسی کچیز ہے، کیونکہ وہ علم و عقل کی میزان میں بالکل کھرا اُرتا ہے۔ اور اس بناء پر اگر کوئی قانون تھا اوقام کے لئے "مشترکہ قانون" (یونیفارم سول کوڈ) بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ہی خدا کی قانون ہے جو حکمتوں اور خوبیوں سے بھرپور ہے۔

(۳)

اسلامی شریعت کی حقیقت مہیت

اور اس کے چند امتیازی خصائص

دین و شریعت کا فرق

اسلام کا دعویٰ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی رہا ہے یعنی تمام آسمانی ادیان میں اصول دین مشترک ہے یہ مثلاً توحید، رسالت، اور یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی عبادت اور اخلاقی بُرائیوں سے بچنا وغیرہ۔ مگر عبادت کے طور طریقوں اور زندگی کے ضوابط میں باہم کچھ اختلاف ہے جو رہا ہے جس کو شریعتون کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا مگر ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ چنانچہ حسب ذیل ایتوں میں دین و شریعت کا یہ اختلاف اس طرح بیان کیا گیا ہے :

شَرَعَ لِكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَهَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَنْفَرُّ قَوْافِيٌّ : اللہ نے تمہارے لئے دین کا وہی حصہ مقرر کیا ہے جس کا اُس نے نوح کو
محکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے (لے محمد) تیرے پاس وہی کے ذریعہ بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے

ابریسم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھو، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ (شوری: ۲۳)

**وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحُقْقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ
وَمُهَاجِنًا لَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْحَكُمْ بِيَنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَقِبُ عَاهَوَاءِهِمْ عَمَّا جَاءُوكُمْ
مِّنَ الْحُقْقِ ۖ إِنَّكُمْ جَعَلْنَا مِنْتَمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاجًا ۚ**

: ہم نے آپ پر یہ کتاب حقایقت کے ساتھ اٹاری ہے، جو انگلی تباول کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان ہے۔ لہذا آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اور جو حق بات آپ کو اللہ کی طرف سے مل چکی ہے اُس سے مُمنہ موکر کران (گمراہ) لوگوں کی خواہشات کی پیرودی مست کیجیے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک واضح راہ مقرر کر دی ہے۔ (مانہ: ۲۸)

قرآن مجید میں لفظ دین ہب ذیل تین معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے: ۱) اماعت و تابع داری (۲) بدلہ و جزاء (۳) شریعت۔ اور اس سے کہیں پر پوری شریعت (تمام احکام فُداوندی) مراد ہوتے ہیں، اور کہیں پر شریعت کا بعض حصہ، یعنی بعض احکام۔ اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اُپر پیش کردہ پہلی آیت میں اصولی احکام کا بیان ہے جو تمام انبیائے کرام کے درمیان مشترک تھے یا۔

غرض اس اعتبار سے تمام انبیاء نے کرام کا دین ایک تھا۔ مگر دوسری آیت کے مطابق انبیاء کی شریعتیں مختلف تھیں۔ لفظ شرعاً اور شریعت کے لفظی معنی لگھاث کے ہیں جہاں پر انسان اور جانور پانی پیتے ہیں یعنی اور ان دونوں الفاظ کے اصطلاحی معنی دین کے اُس طریقے کے ہیں جس کو لئے اس میں بیان پورے دین کا نہیں بلکہ اُس کے بعض حصوں کا ہو رہا ہے، جیسا کہ بیان پر "من الدین" میں "من" تبعیضیہ ظاہر کر رہا ہے۔ اور دین کا یہی متفق علیہ حصہ تمام انبیاء نے کرام کو یہاں طور پر دیا گیا تھا۔ اور یہ بات اس طرح بھی صادق آتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے۔

یعنی آپ کو کوئی مستقل شریعت نہیں دی گئی تھی۔

لئے دیکھئے سمع المفاظ القرآن الکریم: ۱/۳۲۹، ۱/۳۹۰، مجمع اللغة العربية، مصر، ۱۳۹۰ھ

لئے دیکھئے تفسیر کشاف ۳/۳۶۳، تفسیر قطبی ۱۰/۱۰، تفسیر کبیر ۲/۱۵۶، وغیرہ

لئے لسان العرب ۸/۱۴۵، مطبوعہ بیروت

اللہ نے (اپنے بندوں کے لئے) مقرر کیا ہے اور اُس پر طلبہ کا حکم دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور دیگر اعمال خبر ۱۷

اماً راغب تحریر کرتے ہیں کہ شرع اور شریعت سے مراد اللہ کا طریقہ ہے۔ اور حضرت ابی عباس فضیلؑ سے مروی ہے کہ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں اور منہاج سے مراد وہ احکام ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں یعنی

گرعم طور پر شریعت سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کے احکام ہوتے ہیں۔ اور فقا ان دونوں کے تفصیل مطالبے کا نام ہے۔ لفظ "شریعت یا شریعت اسلامیہ" جب دنیا کے زبان قوانین کے مقابلے میں مستعمل ہو تو اس سے مراد وہ تمام احکام ہوتے ہیں جن پر دین اسلام مشتمل ہے یعنی شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کی زبان سے بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے شارع اول یعنی اولین قانون ساز خود اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اسلامی شریعت کے ان اصول و مبادی کا نزول فرمایا جن میں دین بھی ہے، قضائی بھی ہے اور قانونی احکام بھی ہے اس اعتبار سے دین و شریعت کے معنی میں اختلاف ہوتے ہوئے بھی ان دونوں کے مقصود و معاہد اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک کو دوسرا کی جگہ پر بول دیا جاتا ہے، اگرچہ دین کا استعمال عام اور شریعت کا استعمال خاص ہے۔ اور لفظ شریعت کبھی کبھی قانون کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اصل قانون ساز اللہ ہے

غرض ان وضاحتوں سے بخوبی ظاہر ہو گی کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جس طرح دین خدا کی

۱۷ لسان العرب ۱۴۶/۸

لئے المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۵۸، مطبوعہ بیروت۔

۱۸ اُرد و اسیکلو پیدیا آٹ اسلام : ۰۵/۱۱، مطبوعہ لاہور

۱۹ فلسفۃ التشريع فی الاسلام از صبحی محسانی، ص ۶۲، مطبوعہ بیروت۔

طرف سے ہے، اسی طرح اسلامی شریعت بھی حُدَابِیٰ کی طرف سے ہے، اور اصل شائع (قانون ساز) اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت کی اتباع کا محکم دیا گیا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَشْيَعْ أَهْوَاءَ الظَّالِمِينَ لَا يَعْلَمُونَ : پھر ہم نے آپ کو ایسی شریعت پر نظر کر دیا ہے جو (ہمارے) محکم سے ہے، لہذا آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات پر مت چل جو (صیح) علم نہیں کھلتے۔ (باقیہ: ۱۸) اس کا صاف طلب اور تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ضوابط میں اللہ کی شریعت کو پھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ ایسے لوگ "علم و فنون" کی لئنی ہی ڈگریاں کیوں نہ رکھتے ہوں اور "قانون" کے کتنے ہی اونچے عہدوں پر فائز کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ بات ہمیں جیسی طبع معلوم ہے کہ فُدَادِ کی شریعت اور فُدَادِ کے قانون میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نُدُلُتِ احکام کامل، اقلال تا اور دوامی ہوتے ہیں۔ جب کہ انسانی قوانین ناقص، کمتر اور وقتی و عارضی ہوتے ہیں، اگرچہ انہیں قانون سازوں اور دانشوروں کی ایک پوری ٹھیکانے کیوں نہ وضع کیا ہو۔ جیسا کہ میں اس کا نظر ارہ مختلف ترقی یافتہ قوموں میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے نئے نئے قوانین کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ لہذا ایک ایسا مکمل اور اعلیٰ قانون وضع کرنا صرف فُدَادِ ہی کا فعل ہو سکتا ہے، جو انسانوں کے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اسی بنابر ارشاد ہے:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ : کیا ان لوگوں کے ایسے شرکیں ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا وہ طریقہ نکالا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ (شوری: ۲۱)

اس قسم کی آیات کسی ایک دور کے ساتھ خصوص نہیں ہیں، بلکہ ان کا مفہوم و مصدقہ ہر دوسری مختلف حیثیتوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔

ہر دو میں صرف حکم خداوندی کا اتباع

ذکر وہ بالا بحث سے بھجوئی ثابت ہو گیا کہ شریعت کا اصل واضح اور قانون ساز صرف اللہ ہے، اور رسول شریعت الہی کا صرف صالح درجہ ہے۔ اسی بنا پر اہل اسلام کو ہر دو میں صرف حکم الہی کا اتباع کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسی کا نام "اللہ کی بندگی" ہے۔

یصرف اسلامی شریعت ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ دو آدم سے لے کر دو محضی نہ کہ تمام آسمانی شریعتوں کی بھی امتیازی صفت رہی ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کو اس سلسلے میں جو حکم دیا گیا تھا وہ حسب ذیل تین خصوصیات کا حامل تھا: (۱) بندگی صرف اشکی ہو (۲) اس کی اطاعت افلاطی کے ساتھ کی جائے (۳) اور دیگر تمام رشتتوں اور ناقلوں سے کٹ کر اُس کی تابعداری کی جائے۔ اسکی نام "دین قیم" یعنی سیدھا و درست طریقہ ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل آیتِ کریمہ سے ان حقائق پر روشنی پڑتی ہے:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ هُمْ هُنَّ الْمُفَاءِ وَلَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْنَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ : اور ان لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، مخلصانہ طور پر اُسی کی اطاعت کریں اور پوری کیسوٹی کے ساتھ کریں نیز نماز اور زکاۃ ادا کریں۔ یہی درست طریقہ ہے۔ (بیتہ: ۵)

اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دو میں اپنی قوم کو جو پیغام دیا تھا اُس کے مطابق ذیلی قانون کی بالا ذیتی اور دین الہی کی حقیقت و ماہیت اور اُس کے فلسے پر اس طرح روشنی پڑتی ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۖ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ :
حکم کو ناصف اللہ ہی کا ہا ہے۔ اُس نے تاکید کی ہے کہ صرف اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے۔ (یوسف: ۴۰)

حضرت آدم علیہ السلام کے درستے تمام انبیاءؐ کرام کا بھی بیان اور طریقہ کار رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دو میں صرف فرمان خداوندی کی بیروتی کریں اور اُسی کے مکملوں پر طپیں۔ اسی کا نام

عبدات و بندگی ہے۔ اور اسلامی شریعت چونکہ اس دنیا میں اللہ کی آخری شریعت ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کے لئے بغیر کسی ترمیم و اضافہ کے قابل علیٰ قرار دی گئی ہے، لہذا اس کو مستقبل کی تمام ضروریات کے تحت ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ
الإِسْلَامَ دِينًا : آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بھیتی ایک دین کے پسند فرمایا۔ (ماڈہ: ۳)

اسی لئے ارشاد ہوا کہ اسلامی شریعت کی اس تکمیل کے بعداب سوائے اسلام کے کسی دوسرے دین یا کسی دوسری شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اب اسلام کے مقابلے میں سابقہ تمہارے شریعتیں اور گل ادیان مشوخ قرار دئے جاتے ہیں:

وَمَنْ تَبْيَغَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ : وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَسِيرِينَ : اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔ (آل عمران: ۸۵)

فطرت و شریعت کی وحدت

اسلامی شریعت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ تمام ظاہر کائنات کا غالق چونکہ باری تعالیٰ ہے اور اس پوری طبیعی (NATURAL) کائنات میں اُسی کا حکم اور نظام کا رفرما ہے، لہذا اس شرعی اعتبار سے بھی اس عالم آب و گل ہیں اُسی کا فرمان اور اُسی کی حکمرانی ہونی چاہئے۔ بالفاظ دیگر جس طرح تمام اشیائے عالم ایک خلاق و برتر ذات کے بنائے ہوئے قانون فطرت اور نظامِ ربوبیت کی پابندی کر رہے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اپنے خالق و مالکِ حقیقی کی بالادستی اور اُس کے ضوابطِ زندگی کو تسلیم کر لینا چاہئے۔ اسی کا نام اسلام کی اصطلاح میں اقرارِ ربوبیت ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت کے اقرار و اعتراف کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا مان کر اس کے سامنے سرطاعت ختم کر دیا جائے۔ اسی کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں)۔ اس عبارے

”اسلام“ ایک دین فطرت اور سائنس کی طبیعت زندگی ہے۔ اور اس اعتبار سے زمین اور آسمان کے تمام مظاہر ”اللہ کی اماعت“ میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ
كُرْهًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُجْعَلِينَ : کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین تلاش کرتے ہیں ؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے خوش یا ناخوشی سے سب اُسی کی تابعداری کر رہے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹاٹے جا رہے ہیں۔ (آل عمران: ۸۳)

یعنی تمام مظاہرِ عالم اپنے خالق و رب کے مقر کر دے اور لوگے بندھے ضوابط کے تحت روان دوال ہیں۔ لہذا انسان کو ہی اُسی طرح اپنے خالق و مالک کے ضوابط کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس لحاظ سے اسلام کا مطالبہ دورِ جہالت کی نشانی یا کسی انہی عقیدت کی یاد گاہ نہیں، بلکہ ایک بالکل سائنس ک اور حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے۔ چنانچہ اُس کی اس منطق اور فلسفے کے مطابق اللہ کا دین وہ ہے جس کی پابندی تمام مظاہر فطرت کر رہے ہیں، لہذا انسانوں کو اس سے تنفر کیوں ہے؟ اپنے خالق و مالک حبِّ حقیقی کا حکم مانے اور اُس کی تابعداری کرنے میں عارکس بات کا ہے؟ کیا اللہ کے دین سے زیادہ صیحہ اور سپا دین کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس دین فطرت کو چھوڑ کری دوسرے دین کو تلاش کرنے کی یہ معنی ہیں۔

اسلامی شریعت کی معقولیت

اس موقع پر یہ امر بھی لمحظہ رہنا چاہئے کہ اسلامی شریعت دیگر تام شرائع کی نسبت حدود معقول اور متوازن ہے۔ قرآن مجید کا وہ پہلا صیفہ ہے جو فطی و شرعی دونوں قسم کے معاملات میں نہ صرف غور و خوض کی دعوت دیتا ہے بلکہ عقلی اعتبار سے ہر چیز کی حکمت و صلحت تلاش کرنے پر بھی ابھارتا ہے۔ چنانچہ وہ جگہ جگہ عقل و دانش کو معطل کر کے باپ دادا یا فرمی روایات کی انہی اور متعصباً تقلید کی سخت مذمت کرتا ہے۔ کیونکہ انہی اور کورانہ تقلید نیز بے جا تعصب ہے عقل و دانش کا گلا گھونٹنے والے اور صحیح غور و فکر کی راہ میں روٹے الگانے والے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو لوگ یا جو قویں متعصب اور انہی تقلید کرنے والے ہوں وہ آزادانہ طور پر غور و فکر کر رہی نہیں سکتے۔ لہذا

اگر ادا نہ غور و فکر کرنے اور عقل و دانش کو فروغ دینے کی اولین شرط یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید اور قسم کے قوی و مذہبی تعصبات سے آزاد ہو کر حقیقت کی تلاش کی جائے، ورنہ جبکہ ہوتی ڈور کا سرا کبھی باقہ نہیں آسکے گا۔

غرض ایسے لوگوں کو جو آزادی فکر کی نعمت سے موروم ہو کر کسی چیز کی حقیقت کو بحثنا نہیں چاہتے، قرآن مجید پر مخصوص انداز میں بندھوں اور بہروں کے خطاب سے نوازا تھا ہے، جو اس صفت میں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ يَعْنِدُ اللَّهَ الْقُسْمَ الْبُخْرُمُ الْقَدِيرُنَّ لَا يَعْقِلُونَ : بے شک
ہر تین خلاائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرہ اور گرنسی ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ (الفال: ۲۲)
اور ایسے لوگوں کو بعض واقع پر مددوں سے تشییہ دی گئی ہے، جو سوچنے ہوئے لوگوں کو جھینجھڑتے
کا ایک انتہائی لمبنی اسلوب ہے :

إِنَّكُمْ لَا تُشْعِمُ الْمُؤْنَىٰ وَلَا تُشْعِمُ الْقُسْمَ الْدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْمُرِينَ : تم
مددوں کو نہیں مناسکے اور بہروں کو اپنی آواز مناسکے ہو، جب کہ وہ پڑھ پھیر کر چلیں یہ۔ (مل: ۸۰)
اس اعتبار سے اسلام حد در جم عقلی اور عقلیت پسند (RATIONALIST) مذہب ہے،
دنیا کا پہلا مذہب جس نے عقلیت کا انفراد بلند کیا اور جمود و بے عقلی کی نعمت مذمت کرتے ہوئے
عقلیت پسندی کو فروغ دیا۔ اور اس لحاظ سے دنیا میں عقلیت پسندی کی جو کھلکھلیں بلند ہوئیں وہ
سب اسلام کی اسی حقیقت پسندانہ دعوت اور سلسلیت کا نتیجہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں علمی عقلی
اور حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کرنے کا سہرا قرآن حکیم ہی کے سر بندھتا ہے، جس نے بیسیوں آیات کے
ذریعہ لوگوں کے خفہتہ ذہن و فکر کو تھبیخوڑکر بیدار کیا اور انہیں صحیح را پر لگایا۔ لہذا اسلام پر کسی
بھی حیثیت سے بے عقلی یا جمود اور رجعت پسندی کا الارام عائد نہیں ہو سکتا۔

بہرحال اب اس موقع پر قرآن حکیم کی چند ایسی آیات پیش کی جاتی ہیں جو نظم ان فطرت اور
نظام شریعت سے متعلق ہیں۔ ان کے ملاحظت سے ظاہر ہو گا کہ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا طریقہ و مہماج

کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جگہ جگہ نوع انسانی کو مظاہرِ عالم اور ان کے نظاموں میں غور و خوض کر کے جمکتے تخلیق معلوم کرنے اور صافع عالم کے وجود کا پتہ لگانے کی دعوت دیتا ہے، جس نے نہایت درجہ حکمت و صلحت کے ساتھ اس جہان آب و خاک کی تخلیق کی ہے اور ہر ہنر فطرت کے طبیعی نظام میں اپنی ربویت و خلاقیت کے نقوش ثبت کر دیئے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اس مادی دنیا کا ہر ذرہ اور حیفہ فطرت کا ہر ورق، اُس کی ڈالی ڈالی اور بُونا بُونا ایک خلاقِ برترستی کے وجود اور اُس کی بے مثال قدرت و کاریگری کی شہادت فی رہا ہے۔ اور یہ ہنریں ہی کہ انسان کھلے ذہن و دماغ کے ساتھ نظرت کی رعنائیوں اور خلاقِ برتر کی نیروست صنعت و کاریگری کا مطابعہ کرے اور اُس کے سامنے نقاشِ فطرت کے حیرت انگیز نظام اور بے مثال منصوبہ بندی کا حال آشکارا نہ ہو۔ اس طرح حیفہ فطرت کے مطابعین عبرت و بصیرت کے بے شمار اسباق موجود ہیں، جو غور و فکر کے باعث سامنے آتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے :

إِنَّ فِي الْخَلَقِ لِلَّيْلِ وَالشَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا يُتَّلِقُونَ : رات اور دن کے ہر پھر میں اور ان چیزوں میں جن کو انشرے اجرامِ کاہی
اور زمین میں پیدا کر کھی میں، ان سب میں ٹوٹنے والوں کے لئے یقیناً نشانیاں موجود ہیں۔ (یونس: ۶)
وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُثُ مِنْ دَابَّةٍ أَيُّتُ لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ . وَ اخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالشَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَ تَصْرِيفَ الزَّمَنِ يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . تِلْكَ أَيُّتُ اللَّهُ نَشْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ .
فِي أَيِّ حَدٍ يُبَثِّ بَعْدَهُ اللَّهُ وَ أَيُّتُهُ يُؤْمِنُونَ : اور تمہاری تخلیق اور جانوروں کے (زمیں پر)
پھیلاؤں میں کبی یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔ اور اسی طرح دن اور رات کے ادل بدل
میں۔ اور اُس بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ بطورِ رزق آسمان سے بر سار کر زمین کو اس کی روت کے بعد
پھر دوبارہ (رموئیدگی کے ذریعہ) زندہ کر دیتا ہے اور ہر ہاؤں کے ہر پھر میں عقلمندوں کے لئے
(اللہ کی خلاقيت و ربوبیت کی) نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر

کس چیز پر ایمان لاشیں گے؟ (جاثیہ : ۴-۳)

یہ چند آیات بطور مثال پیش کی گئی ہیں، ورنہ اس باب میں بے شمار قرآنی آیات موجود ہیں جن میں اسلوب بدل بدل کر نوع انسانی کو، دعوت فکر دی گئی ہے اور اسے غور و تکراو و عبرت پذیری پر ابھارا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر چند مظاہر فطرت کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لئے ایک نشانی موجود ہے۔ (خل : ۱۱)

کہیں وہ کہتا ہے : ان فی ذلک لآیات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : یقیناً اس باب میں عقل والوں کے لئے چند نشانیاں (اسباق) موجود ہیں۔ (خل : ۱۲)

اسی طرح وہ کہتا ہے : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ : ان چیزوں میں الہ علم کے لئے دلائل موجود ہیں۔ (روم : ۲۲)

اس طرح مختلف اشیاء کی جنکتوں اور مسلمتوں کو دریافت کرنے کے باب میں کہیں پر "یتفرکرون" (غور و خوض کرنے والے) کہیں پر "یعقلون" (سبھنے والے) اور کہیں پر "العالمین" (علم والے) وغیرہ الفاظ اس کے ذریعہ فکر، عقل اور علم کے جذبات بیدار کئے گئے ہیں۔ اسلام میں علم اور عقل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس موضوع پر سیکڑوں آیات مذکور ہیں۔ انہی آیات کے نتیجے میں جدید مائشنس کا آغاز ہوا اور اعلیٰ و صائب تحقیقات کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ تاریخ مائشنس کے مطابع سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے قرون وسطیٰ میں شاذ اعلیٰ ترقیات کیں اور جدید مائشنس کی بنیاد پر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے جدید مائشنس کی ترقی قرآن عظیم ہی کی دعوت فکر کا نتیجہ ہے۔

غرض اسلام نے جس طرح حکمت خلیق (CREATION) کا حال معلوم کرنے کی دعوت دی ہے بالکل اسی طرح اس نے نظام شریعت اور اس کے مختلف اکماں میں غور و خوض کر کے حکمت تشریع (LEGISLATION) کا حال آشکار کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ چنانچہ جس طرح اس نے

کہا ہے کہ نظام کائنات میں اہل فکر، اہل انش اور اہل علم کے لئے اساق و بصائر موجود ہیں، بالکل ان سی اسلوب میں شرعی احکام کی حکمتون اور مصلحتوں کا بھی بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں دیکھئے جہاں پر کح، طلاق، فلุج، عدت اور مہر وغیرہ چند عائلی مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد صاف ارشاد ہوتا ہے:

كَذِيلَقَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَحْمُهُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : اسی طرح اسلامیہ سارے لئے پہنچ احکام کی وضاحت کرتا ہے، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ (بقرہ: ۱۲۲)

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ عقل و فکر سے کام لینے پر ان احکام خداوندی کی حکمت و مصلحت اور ان کی معاشرتی خوبیاں تم پر اشکارا ہو جائیں گی۔ اس طرح اس آیت کے ذریعہ اسلام کو سوچنے سمجھنے اور ان احکام کی خوبیاں حملہ کرنے پر انجام اگایا ہے۔ جو کہ یہ احکام شریعت خلق اعلٰیٰ کی جانب سے ہیں، جس کا علم ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، الہذا اس کے احکام کا ملیت، برتری اور ابتدیت کے مظہر ہوتے ہیں۔ اسی بناء پر یہ ہر دو میں منصرف کارکرد اور قابل عمل ہوتے ہیں، بلکہ ان کی حکمتون اور مصلحتوں کے نئے نئے پہلو بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہر چہ کہ اس قسم کے غور و فکر کی دعوت وہی نہیں رکتا ہے جس کی نظر میں واقعتاً یہ تمام مصالح پہلے سے موجود ہے ہوں۔ احکام شریعت کے بیان یہ قرآن حکیم کا یہ کیفی عوی اسلوب ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کہی بات کو چپ چاپ مان لینے یا آنکھیں بند کر کے قبول کر لینے کی دعوت نہیں دیتا، جیسا کہ دیگر مذاہب کا خاصہ ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ بیدار از فرزی اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ غرض اس باب کی چند مزید آیات ملاحظہ ہوں۔ بشراب اور انفاق (خروج کرنے) کے بالے میں چند بہایات دینے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

كَذِيلَقَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَحْمُهُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ : اسی طرح اسلامیہ سارے لئے آئیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ (بقرہ: ۱۲۹)

یہ آیت کریمہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۶ میں بھی وارد ہوئی ہے:

بہاں پر انفاق کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور سورہ نور میں جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بالے میں ایک تہمت اور جھوٹے الزام کا قصہ مذکور ہے، اُس میں سلانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ بلا تحقیق
کسی پر الزام یا تہمت نہیں لگانا چاہئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے :

وَيَسِّرْ لِلَّهُ لِكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ حَكِيمٌ : اور اللہ تمہارے لئے احکام
کی وضاحت کرتا ہے۔ اور اللہ بڑا ہی جانتے والا اور حکمت والا ہے۔ (نور : ۱۸)

اسی طرح سورہ نور میں چند گھر بلو مسائل کا ذکر ہے کہ بعد ارشاد ہوتا ہے :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : اسی طرح اللہ تمہارے
لئے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ (نور : ۶۱)

اسلامی شریعت کا مجرم

اسی طرح کی اور بھی متعدد مثالیں موجود ہیں، جہاں پر اہل اسلام کو غور و فکر کرنے اور
عقل و دانش سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ابدی اور بے عیب شریعت وہی
پیش کر سکتا ہے جس کا علم حکم اور لازوال ہو، اور جس میں گردش لیل و نہار کے باعث کسی قسم کا تنفس نہ
ہو سکتا ہو۔ یا اس کو انسانی علم و فلسفے کے تھیڈر کے بھی زیر و زبرد کر سکتے ہوں۔ حسب ذیل آیات
کریمیں اسی قسم کے حقائق کی طرف اشارہ دکھائی دیتا ہے :

الْرَّقْبَ كَتَبَ أُخْيَمَتِ الْآيَتُهُمْ فُصِّلُوا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ :
یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں (علمی اعتبار سے) مفہوم و سمجھ کر دی گئی ہیں۔ پھر ان کی تفصیل ایک
حکمت والی اور باخبر ستری کی جانب سے کی گئی ہے۔ (ہود : ۱)

وَلَقَدْ جَنَّهُمْ بِكِتْبٍ فَصَلَّهُ عَلَىٰهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَوْمَنُونَ :
اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کی تفصیل ہم نے ایک خاص علم کے ذریعہ کر
دی ہے، تاکہ وہ اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت کا باعث بن سکے۔ (اعراف : ۵۲)

اسی بناء پر قرآن حکیم کو دلیل، محنت اور بر بیان کہا گیا ہے جو حقیقت واقعہ کے عین مباحثہ ہے:

یَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُّورٌ
مُّبِينًا ۝ لَئِنْ كُوْنَتْ رَهْبَانَةً بِالْمَسَاجِدِ فَلَا يَرْجِعُنَّ إِلَيْكُمْ وَلَا هُمْ
پَالِيْكُمْ ۝ لَئِنْ كُوْنَتْ رَهْبَانَةً بِالْمَسَاجِدِ فَلَا يَرْجِعُنَّ إِلَيْكُمْ وَلَا هُمْ
پَالِيْكُمْ ۝ اَيُّكُمْ نُورٌ وَشَنْبَحٍ دِيَاهِے۔ (ناء : ۱۴۳)

حال یہ کہ اسلامی شریعت کی بنیاد مکمل علیٰ عقلیٰ دلائل پر ہے، جو اس کے ابدی احکام
میں غور و فکر کے باعث واضح ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قانون چونکہ حکمتوں اور مصلحتوں سے بھر پور ہوتا ہے،
اس لئے حکمیت بتدیر بخ اور زبانے کی رفتار کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ موجودہ علمی ترقی اور
علوم و فنون کے دور میں قانون طلاق اور تعدد ازدواج کی ضرورت و اہمیت اور اس کی حکمت و مصلحت
کا حال دن کے آجائے کی طرح عیاں اور کاشکارا ہو چکا ہے۔ جناب آج متعدد اور ترقی یافتہ قوموں تک
میں طلاق کی قبولیت عام ہو چکی ہے، جو اسلامی شریعت کی برتری اور عقولیت کا ایک ناقابل تردید ثبوت
ہے۔ اسی طرح آج تعدد ازدواج (POLYGAMY) کی قبولیت کے لئے فضاسازگار ہوئی جا رہی
ہے، کیونکہ عاشرتی و متعددی اعتبار سے یہ ایک جائز، فطری اور عقول قانون ہے۔ اور بعض ہنگامی حالات
میں حاشر کو حصی انار کی سے بچانے کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً جنگوں کے بعد جبکہ
جو ان عورتوں کے بہوہ ہو جانے کے بعد مردوں کا کمال ہو جائے۔ لہذا ایک فطری اور فدائی قانون عاشرتی
کی پاکیزگی اور طمارت کے لئے اس عقول اور ضروری قانون سے تفافل بر تہیں سکتا۔ ورنہ یہ خدا تعالیٰ
قانون کا ایک نقش شارہ ہو سکتا تھا۔

لہذا اس سلسلے میں عیسائیوں کا طرزِ عمل اور ایسا یورپ کا اسلام پر اعتراض بالکل غلط اور
کھوکھلا ہے۔ اور اسلام پر مستشرقین کے اعتراضات سے متاثر اور مغرب ہو کر حدیقہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی اسلام
پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ گویا کہ اسلام نے اس فطری قانون کو تسلیم کئے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے،
مگر اب آہستہ آہستہ تعصب اور انہی عقیدت کے بادل جھٹ لئے ہیں، شہبات و اعتراضات کا پڑہ
چاک ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کی عقل پرستی پر بہت گئے ہیں وہ اب تعدد ازدواج کے حق ہیں
اوہ اب لذت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح اب بیسویں صدی میں جا کر اسلامی قانون کی مقبولیت کے لئے فض-

سازگار ہوئی نظر آہی ہے۔ اور انشاء اللہ الکیسوں صدی "اسلامی شریعت کی صدی" ہو گی۔ غرض اس لحاظ سے علم اور دین یا فطرت اور شریعت یہ کبھی تعارض و تصادم نہیں ہو سکتا بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مؤید اور ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ یعنی دونوں میں جانب اللہ ہیں۔ لہذا جو چیز من جانب اللہ ہو اس میں کبھی تعارض و تصادم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نظام کائنات کے مطابع سے جس طرح مُفَيَّر العقول طور پر ایک خلاق اور ناظم ہستی کا وجود ثابت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نظام شریعت کے مطابع سے ایک جی ان کُن قانون ساز ہستی کا نظارہ بھی بخوبی ہو جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ دونوں عقل انسانی کو چکر لے دیں۔ والے بلکہ اس کے علم و دانش کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں نظاموں میں خلاق عالم کی بے شک قدرت و رتری اور حکمت و دانش کے نقوش اتنے اُپنے معیار کے ہیں کہ انسان اپنی کم علیٰ اور کرتا ہے اسی کے باعث ان کا مجمع طور پر اور اک واحد اعلاء بھی نہیں کر سکتا۔

وَلَا يُجِيبُونَ بِشَفَاعَةٍ مِّنْ عِلْمٍ هُوَ إِلَّا مَا شَاءَ : اور یہ لوگ اُس کے علم میں سے کسی

چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ (بقرہ : ۲۵۵)

یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيبُونَ بِهِ عِلْمًا : وہ ان لوگوں کے لئے گے اور پیچے کی تمام باتیں جانتا ہے۔ مگر یہ لوگ اس کا علیٰ اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ (طہ : ۱۱۰) واقعہ یہ ہے کہ اسلامی و قوائیں ہیں تو اُن اور اعیان اہل اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہ ہر دور اور ہر خطہ کے لئے یہاں طور پر قابل عمل اور تمام طبقات انسانی کے لئے موافق و سازگار ہیں اور کسی بھی دور میں ان پر چنان مسئلہ نہ ہو اور نہ وہ انسانی طبائع کے لئے شاق اور ناقابل عمل نظر آئیں۔ یہی اسلامی شریعت کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا مجزہ ہے۔

ایک حیات بخش قانون

اس اعتبار سے اسلام دین فطرت ہے، یعنی اُس کے تمام احکام و قوائیں فطری ہیں؛ جن میں دیگر مذاہب کی طرح سختی و شدت اور پیچیدگی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اُس کے تمام احکام انتہائی درجہ

سادہ اور متوازن ہونے کے ساتھ ساتھ حدر در پر معقول، حکماء اور حیات بخش بھی ہیں، جن پر عل کر کے انسانی معاشرہ و ابدی معادلوں سے ممتنع ہو سکتا ہے۔ واقعیہ ہے کہ اسلامی قانون ایک پاکیزہ اور حیات پرور قانون ہے جس کی سینادوں پر ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک ہدہ دان (سب کچھ جانے والے) اور انہائی دانہ سی کی طرف سے تمام انسانوں کی بھلانی کی خاطر بھیجا ہوا قانون ہے جو نوع انسانی پر انہیا درجہ مشق و مہربان ہے۔ اور اسی بنابر وہ اپنے آپ کو رحان و حیم کہتا ہے جس کے معنی حدود رحم دل کے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنے کلام اپاک میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ اور رأس کے رسول کی اطاعت میں اہل اسلام کی زندگی ہے۔ یعنی اسلامی قانون و شریعت میں مسلم معاشرے کی زندگی اور نموحیات کا راز پوشیدہ ہے۔ گویا کہ خدا اور رسول کے احکام "زندگی" کی ضمانت و علامت ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ سَمِعُوا الشَّيْخَيْنِ مُبَوِّلَةً وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ :

لے ایمان والوں اور رسول کا حکم بجالاؤ، جب کہ وہ تمہیں زندگی بخش جیز کی طرف بلالا رہا ہو۔ (الفلاح ۷۷)

علم و حکمت کا مظاہرہ

اسلامی شریعت و قانون درحقیقت حکمت و بصیرت سے بھروسہ ہے، جس میں انسان فطرت اور مختلف طبائع کا پوری طرح لمحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نبی اسرائیل میں چند احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے :

ذِلِكَ هُوَ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ : یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جنہیں تیرے

رب نے وحی کے ذریعہ تیرے پاس کیے ہیں۔ (بنی اسرائیل : ۳۹)

اور پہمیں اسلام علی انش علیہ وسلم کا منصب بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو "کتاب اور حکمت" کی تعلیم دیا کرتے تھے یعنی کتاب الہی کے اسرار و روزگار کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ "حکمت" کے نام سے موسم ہوا۔ اور یہی وہ "حکمت رسول" ہے جو آخر ہمارے سامنے "حدیث" کی شکل میں موجود ہے، جیسا کہ حسب ذیل آئیت کریمہ کے ذریعہ اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أُبَيْتَهُ وَمِيزَكِنِهِمْ

وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ : وہی ہے جس نے اُنی قوم میں ایکٹ رسول انہیں ہی سے بھیجا، جو انہیں اللہ کی آئیں سنا تا ہے، اُن کا تذکیرہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ (جعہ ۱۲)

اللہ تعالیٰ شرعی احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد عموماً اپنے آپ کو ”علم و حکیم“ کہتا ہے۔ مثلاً سورہ نور میں دیکھئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین مقامات میں شرعی امور کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے:

وَيَبْيَّنُ اللَّهُ لَهُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (آیت ۱۸)

كَذَلِكَ يَبْيَّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (آیت ۵۸)

كَذَلِكَ يَبْيَّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (آیت ۵۹)

ان تینوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو کھوں کر بیان کرتا ہے، کیونکہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی چونکہ وہ مطلق طور پر علم اور مطلق طور پر حکمت کے اوصاف ہیں تھے، اس لئے اس کی تمام باتیں علم و حکمت سے بہری ہوتی ہیں۔ اب اس موقع پر شریعتِ الہی کے مظہق مقدماً کی ترتیب اس طرح ہے کہ:

۱۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علم و حکیم ہے اس لئے اس کی باتیں علم و حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں۔

۲۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں علم و حکمت سے پڑھوتی ہیں لہذا وہ اپنے رسول کے پاس جو

بھی دھی بھیجا ہے وہ علم و حکمت کا مظہر ہوتی ہے۔

۳۔ اس میں ر حکمت وحی کی بینا دپرس رسول کی تعلیمات بھی جیمان ہوتی ہیں۔

۴۔ خدا اور رسول کے اسی ازلی علم و دانش اور حکمت و بصیرت کا نتیجہ ہے کہ اسلامی شریعت

بھی حکمت و دانش سے بھرپور اور علم کے معیار پر پوری اُترتی ہے۔

چنانچہ یہ اسی پر حکمت اور حکم علمی بینا دہی کا نتیجہ ہے کہ چودھ سو سال گزر چکنے کے باوجود اسلامی شریعت کی جدت و تازگی، اُس کی برتری و معمولیت اور اس کی اہمیت و عالمگیری ہیں کوئی

فرق نہیں آسکا ہے۔ بلکہ دن بدن اس کی اہمیت و افادیت اور اس کی مقبولیت میں باہر اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کے نفع نئے پہلو سائنسی آئی ہے ہیں، جن کی تابانی اور جلوہ سامانی سے عقل انسانی حیران اور دنگ ہو کر رہ گئی ہے۔

ان محکم اور ناقابل تغیر احکام کے وجود کا ایک اور لازمی اوضاعی تقاضا یہی ہے کہ اس عالم ہست و بود میں ایک ایسی علم و حکیمیتی کا وجود بھی ہے جس کے علمیں قسم کارڈ و بدیں نہیں اور رہے۔ بلکہ ان احکام کی کاملیت اور دوامیت ہی کے لاحظہ سے ایک نکتہ رسنگاہ اس نکتہ تک ضرور پہنچ سکتی ہے کہ ایسے لاڑوال احکام یقیناً علم و حکمت کا نمونہ ہیں اور ان کا قانون ساز علم و حکمت کے اعلیٰ مرتبے برقرار ہے۔

ایک جامع اور ابی ازی آیت

و اقصى ہے کہ قرآنی احکام میں حکمت و دانائی کا حیرت انگیز مظاہرہ دکھائی دیتا ہے۔

اور اس حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں مجہرانہ حد تک اختصار بھی رکھا گیا ہے اور ایسی بچک رکھی گئی ہے کہ اس کی تغیر میں دفترتوں کے دفتر سیاہ کئے جاسکتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین اور نتیجیاں مثال حسب ذیل آیت کریمہ ہے، جو دریا بکریہ کا مصدقہ ہے۔ اور یہ قسم کے انسانی حقوق اور مشول جسٹس کی بنیاد ہے :

إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْيَا الْعَدْلَ وَالْأَحْسَانَ دَائِيَتَأْوِذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَثَارِ
وَالْمُشْكَرِ وَالْتَّغْيِي : الشر (زندگی کے ہر معاملے میں) عدل اور احسان (کام مظاہرہ کرنے) اور رشتہ داروں کو نوازنے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ (ہر قسم کے) فخش کام، بُری بات اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ (خل: ۹۰)

اس آیت کریمہ میں عدل سے مراد اعتدال اور احسان سے مراد حسن ملکوں ہے۔ اور وہ نوں اصول تمام معاملات زندگی میں مطلوب ہیں۔ اور ان اخلاقی اصولوں کو بربت کر زندگی کو گل و گھردار

بنانے اور قریبی رشتہ داروں سے لے کر ہر ایک کے ساتھ حُسن معاشرت قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ اتنا قیمتی اصول ہے کہ اس کا اطلاق گھر بلوزندگی سے لے کر پورے محلے، شہر، معاشرہ، ملک اور دنیگر اقوام تک ہر ایک سطح پر ہو سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس اصولِ عدل و احسان (اعتدال اور حُسن سلوک) کو معاشرتی، قومی، ملکی، سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر لاگو کرنا چاہئے۔ درینہ دُنیا سے مفاسد اور نافذانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح "خشاء" سے مراد وہ اخلاقی بڑائیاں ہیں جو شہوانی قوت کی زیادتی کے باعث نہ ہوں آتی ہیں۔ "منکر" سے مراد وہ معاشرتی مفاسد ہیں جن کو عقل برا بھٹتی ہو۔ اور "بغی" سے مراد ظلم و زیادتی اور لوگوں کے حقوق غصب کرنا ہے۔ اس طرح اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور ثابت و منفی دونوں اعتبارات سے یہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ منطقی لحاظ سے اس میں ہر قسم کی اخلاقی خوبیاں داخل ہو گئی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں ہر قسم کے دنائل اخلاقی شامل ہیں جن سے پچھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس میں اس قدر بچک اور جامعیت ہے کہ اس کی شرح میں پورے فلسفہ اخلاق کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پھر بھی شنگی ہی نہ ہے گی۔

معاشروں کی تغیر و تہبیک کے لئے یہ اسلام کا ایک آئینی طیل اور اُس کے اقدارِ حیات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور یہ اتنا جامع اور قیمتی اصول ہے کہ اس کی نظریہ دنیا کے دیگر مذاہب اور قوانین میں نہیں ہوتی۔ غرض قرآن جیکیم اس قسم کی جامع اور حکماز آیات و احکام سے بھرا ہوا ہے۔ اور ان میں اس قدر بچکا ہے کہ وہ وقت اور زمانے کی تبدیلیوں سے ان کی اثراندازی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ بلکہ قانون اور فلسفہ قانون کی ترقی کے ساتھ احکام شریعت میں مزید بکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دُنیا میں جہاں ہر جگہ معاشرتی، اجتماعی، قومی، نسلی، مذہبی، سیاسی اور بین الاقوامی بڑائیاں پھیل ہوئی ہیں، ان کے استیصال کا واحد نظم اس آیت کریمہ کی تعمیل ہے۔ اور اس اعتبار سے حکم ربانی

اسلامی فرمودہ علم اور عقل کی بیانیں

بالتفصیل مذہب و ملت پوری نوع انسانی کے لئے نسخہ کیا اور آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس پر عمل کر کے دنیا کے تمام انسان ہمیں ہو گون کا سانس لے سکتے ہیں۔

ازدواجی زندگی میں حسن سلوک کی تاکید

اس موقع پر حیثیت بھی لمحظہ رہنی چاہئے کہ مذکورہ بالا آیت میں جن امور کی تلقین کی گئی ہے اُس کا اطلاق ازدواجی زندگی پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں عدل و اعتدال اور احسان و حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی لمحظہ رہنا چاہئے۔ اور ان دونوں کو فائدی امور میں میانہ روی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہتر سلوک کا منظاہرہ کرنا چاہئے، اس طور پر کہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اور دونوں اپنے حدود اور دائرے میں بہت سے ہو گئے اپنے اپنے حقوق و فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے رہیں۔ جس کے باعث ایک خوش گزار اور مسترت بخش زندگی کا انداز ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اس میں "منکر" اولزم و زیادتی سے روکا گیا ہے یعنی عقلی اعتبار سے جو امور ناپسندید ہیں ان سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہئے اور کسی صورت میں زیادتی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے، جس کی وجہ سے سوائیں میں ایسے مردیاً عورت کی پوزیشن پر افریض کشنا ہو اور اُس کا وقار زائل ہو گئے ہو یہ احترام عقل اور احترام معاشرہ کی بھی ایک لطیف تلقین ہے۔ اس اعتبار سے اسلام نہ صرف حسن اخلاق کی تبلیغ دیتا ہے بلکہ انسان کو ہتر عقلی اور عقول رویہ اختیار کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اور اس مثال سے اسلامی تعالیٰ کے زانج اور ان کی معقولیت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسلام کے قانون طلاق پر اعراض کرنے والے دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر تمذبیب و شاستری کی تلقین کا طریقہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی محترفین کا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے بلا وجد کو حق طلاق نے کر عورت کے ساتھ نا انصافی کی ہے۔ کیا اس اعتراض میں کوئی معقولیت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کا مطالعہ اُس کے پورے نظام اور چکھے کے اندر کرنا چاہئے، جو تحقیقی مطالعہ کا بنیادی اصول ہے۔ ورنہ ہر چیز زیادتی ہی ٹیکھی نظر آنے لگے گی۔

اسلامی شریعت کے چند امتیازی خصائص

اسلامی شریعت ایک جامع اور کامل ضابطہ حیات ہے، جس کا بنیادی مقصد اصلاحِ معاشرہ اور انسان کی نفلاتی سے بخال کر جو اسکی غلای ہیں دینا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کے بنائے ہوئے ظالمانہ اور جا بارانہ قوانین کے بوجھ اور اُس کے جبرا و استعمال سے کراہی ہر ہٹی انسانیت کو آزاد کر کے فُلائے رہان کے عادلانہ اور منصفانہ قوانین کی طرف لانا ہے، جو ہر مرکز کے نقص و عیب سے پاک ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی شریعت کی بہت ہی مخصوصیات ہیں اور ان سب کا احاطہ مشکل ہے۔ مگر اس موقع پر صرف چند عمومی مخصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی مخصوصیت یہ ہے کہ کہی مخصوص دوریاں مخصوص قوم یا مخصوص قوم کے لئے نہیں بلکہ اس کا پہنچاً تمام ادوار اور تمام افراد انسانی کے لئے ہا ہے، کیونکہ سپریم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کی ہدایت وہ بھری کے لئے بھیج گیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيَكُمْ بِجَمِيعِ عَالَمٍ كَمَا دُوكُلَ اَنْ تَوَكُّلْ مِنْ هُنَّا
کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ (اعراف: ۱۵۸)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ : قرآن سالے جہاں کے لئے ایک تذکرہ اور یادِ دہانی

ہے۔ (ص: ۸۸)

۲۔ اسلامی شریعت خُلائقِ رحمان کی رحمت اور بندوں پر شفقت و رحمدی کی نظر ہے، جس کے ذریعہ معاشرتی و تمدنی مفاسد کو دُور کرنا اور معاشرہ کی مصلحتوں اور بھلائیوں کا الحاظ رکھنا ہے۔ اسی بناء پر سپریم اسلام صلیم اور قرآن مجید دونوں کو ”رحمت“ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ دونوں رحمتِ الٰہی کے مظہر درز جان ہیں:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ : اور ہم نے آپ کو سالے جہاں کے لئے رحمت بنائکری کیا ہے۔ (ابنیاء: ۱۰۴)

وَلَقَدْ جَشَّنَاهُمْ بِكِتْبٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

اسلامی شریعت علم اور عقل کی بیانیں

میتھمُونَ : اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے (اپنے خاص) علم کی بنیاد پر کھول کر بیان کر دیا ہے۔ (اور اسی بنابر) وہ اہل ایمان کے لئے ہدایت رحمت ہے، (اوaf: ۵۷) **وَإِنَّهُ لَهُدْيٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ :** یقیناً وہ اہل ایمان کے لئے ہدایت رحمت ہے۔ (مل: ۴۴)

چنانچہ بندوں پر رحمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ ان میں اخلاقی اعتبار سے خوبیاں پیدا ہوں، اور خرابیاں دور ہوں یعنی لہذا خدا نے رحمان کے اختصار کو مبنی بر حکمت ہونا چاہئے۔

۳۔ اسلامی شریعت کی ایک اہم خصوصیت اُس کا آسان ضابطہ حیات ہے۔ یعنی چنانچہ اس میں اہل کتاب کی شریعتوں کی طرح سخت اور مشکل قوانین نہیں ہیں، جو ان کے بدعا میں کام نہ ہے۔ بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسان دین اور آسان شریعت دے کر پہچاگیا، جس پر علی کرنا سب کے لئے آسان ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول عربی صللم کی حسب ذیل خصوصیات بیان کی گئی ہیں:

يَا مُرْتَمِيَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا مُنْكَرُ وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيعَاتِ وَنَصِعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلُلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ :

وہ ان کو معروف کا حکم کرتا ہے اور مونکر سے روکتا ہے، ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناباک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے (سخت قوانین کے) دو بوجھے اور زنجیریں اُنہا تاہے جو ان پر (زمانہ دراز سے) تھیں۔ (اوaf: ۱۵۴)

نیز اس کے علاوہ دیگر آیات میں صاف صاف اعلان کیا گیا کہ اسلامی شریعت کو انسانی نظر کا لاحاظہ کرنے والے آسان بنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اب اسے دائیٰ سور پر اس عالم میں اپنا پارٹ ادا کرنا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا : اشکسی کو اُس کی طاقت سے زیادہ

مکلف نہیں دیتا۔ (بقرہ: ۲۸۶)

الله ما فردا للدخول للدراسة الشريعية الاسلامية، عبد الرحيم نزيان، ص ۲۵-۳۶، بيروت، ۱۹۷۰م

الله ما فردا تاريخ التشريع الاسلامي، محمد الحضرمي، ص ۱۸-۲۱، بيروت، ۱۹۷۰م

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ : اللَّهُ جَاهَتْهَا لِئَلَّا آسَانٍ
چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا۔ (بقرہ : ۱۸۵)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ هُنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا : اللَّهُ جَاهَتْهَا كَمْ
وہ تمہارا بوجہ ہلکا کرفے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (نساء : ۲۸)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِإِجْحَالِ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ : اللَّهُ قَرِيبٌ كَرَنَّى نَهْبَنِيں چاہتا۔ (آلہ : ۶)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ : اور اُس نے دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں رکھی۔ (رج : ۴۸)

۴۔ اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت غیر عقول تقلید وں سے انکار اور انسانی معاشرے کی مکمل اصلاح ہے، جو دینی عقائد سے لے کر اجتماعی روابط تک ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور یہ روح قرآن کی تمام تعلیمات میں سراہیت کئے ہوئے ہے۔ اور ان میں سے بعض امور پر کچھ پلے صفات میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

۵۔ اسلامی شریعت ایک معتدل اور متوازن ضابطہ حیات ہونے کی بنیاد پر خیر کا نمونہ ہے۔ لہذا وہ خیر اور بھلائی کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے:

وَلِكُلٍ هُوَ وِجْهٌ هُوَ مُوْلَيْهَا فَاسْتِيقْوَا الْخَيْرَاتِ : (ہر منہب والے)
کے لئے ایک رُخ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہتا ہے: مگر تم بھلاشیوں (والے دین) کی طرف چلو۔ (بقرہ : ۱۳۸)

۶۔ اسلامی شریعت مظہر حیات ہے یعنی اس میں قوم اور ملت کی بقا و فلاح کا راز پر مشید ہے۔ بالفاظ دیگر حوقم اسلامی ضابطہ حیات پڑل کرے گی وہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے آٹھ پر برقرار رہے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَبْغُونَ رَبَّهُو وَرَسُولَهُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبُّونَكُمْ : اے ایمان وال آتم اشدا و رسول کا حکم بجا لاؤ، جب کہ وہمیں زندگی بخش چیز کی طرف بال رہا ہو۔ (الفاتحہ : ۲۷)

۔ اسلامی شریعت "معروف" (عقلی اعتبار سے قابل تحسین بات) کی تلقین کرتی ہے اور "منکر" (عقلی اعتبار سے امر ناشناس) سے بچنے کی تاکید کرتی ہے۔ چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شریعت کے تمام امور عقلی اعتبار سے معیاری اور پرستی کی ہیں یعنی وہ حکم علیٰ عقلی مبیناً دوں پر قائم ہیں۔ لہذا شریعت پر علیٰ درکم ایکٹھے عقول بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ شریعت ہر قسم کی بڑائیوں اور غیر اخلاقی و انسانیت سوزاً اور سے نوع انسانی کو روکتی ہے۔ لہذا شریعت کا کسی چیز سے روکنا بجائے خود اس کے غیر عقول ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس اعتبار سے عقل اور دین یا فطرت اور شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے موئید ہیں۔ جو چیز عقلی ہے وہی حکم شریعت ہے، اور جو حکم شریعت ہے وہ یعنی مطابق عقل ہے۔

گریے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی ملت و محکت انسانی عقل میں بھی ضرور آجائے۔ کیونکہ انسانی عقل اور اس کے حواس محدود ہیں، جیسا کہ نہیں سائنس کی دنیا میں اس کا بخوبی تجربہ ہو چکا ہے کہ انسانی عقل مادی ذرات کی حقیقت و مایہت سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور یعنی دنیا کے بہت سے ایسے امور ہیں جن کی اصلیت کا کوئی علم انسان کو سر سے حاصل ہی نہیں ہے۔ یہی حال شرعی حکموں اور مصلحتوں کا بھی ہے۔ نیز جس طرح عالم طبیعت میں بعض حقائق کا اکٹھاف صدیوں بعد ہوتا ہے، اسی طرح بعض شرعی علتوں اور مصلحتوں کی حقیقت بھی صدیوں بعد اکٹھا ہوتی ہے، جبکہ انسانی علم و فلسفہ کسی نئے دور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے کسی حکم کو انسانی علم و دانش عقلی و مطلقی اعتبار سے مُحل اور ناکارہ ثابت کر دیں۔ اس قسم کی کوئی مثال چودہ سو سال سے اب تک انسانی مشاہدے میں نہیں آسکی ہے اور ریقامت تک آسکتی ہے۔

حاصل یہ کہ شریعت کے تمام احکام "معروف" اور "منکر" کے مصدق ہیں۔ اور یہ حقیقت قرآن اور انجلیل کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے؛ جن کی دوسرے دور آخریں ایک بھی اُتی کا آنابرحق تھا جو نوع انسانی کو معروف (قابل تحسین بات) کی تلقین کرنے والا اور منکر (امر ناشناس) سے منع کرنے والا اور سابقہ شرعاً کی وجہ نہیں سے انہیں آزاد کرنے والا قرار دیا گیا ہے، جس کی اتباع میں پوری نوع انسانی کی

فلاح و بہبودی ہے :

آلَّا ذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الْتَّبِيَّ الْأُقْرَبِ الَّذِي يَحِدُّوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ
فِي التَّوْرِيلَةِ وَالْأَخْيَلِ نِيَّا مُرُّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَتَّهَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيَجْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيرَتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
أَمْسَوْا يَهِ وَغَزَرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا التَّوْرِيلَ الَّذِي أُنْزَلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ : وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اُپی ہے جسے وہ اپنے ہاں تورات اور
انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو معروف کا حکم کرتا ہے اور منکر سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ
چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے (سخت قوانین کے) وہ بوہجہ اور
زنجیریں اٹھاتا ہے جو ان پر (زمانہ دراز سے) لادی ہو گئی تھیں۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے،
اس کی حمایت کی جائے مدد دی اور اس نور کے تابع ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو ایسے ہی
لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (اعراف: ۱۵۴)

اسلامی شریعت کی بھی وہ امتیازی خصوصیت ہے، جس کی بنیاد پر امتِ اسلامیہ کو ایک
بہترین امت قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی کی برداشت و رہنمائی کے لئے بھیجی گئی ہے۔
لہذا اس کا فرضیہ ہے کہ وہ عالم انسانی کو اسلامی شریعت کی اس خصوصیت اور اس کی خوبیوں سے
روشناس کرائے، تاکہ وہ دین برحق کی طرف متوجہ ہو:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ:
ثُمَّ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بھیجی گئی ہے (کیونکہ) تم معروف کا حکم کرتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔
(آل عمران: ۱۱۰)

۸۔ اسلامی شریعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جامع اور کامل دستور العدل ہے
جو زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام احوال و کوائف کا احاطہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس میں عقائد و عبادات اور
اخلاقیات کے علاوہ تمدنی و اجتماعی تمام اصول و ضوابط کا بیان موجود ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ ایک ایسے

رسول (صلیم) کا پیش کیا ہوا ہے، جس نے کسی مدرسے یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل ہیں ہی بلکہ وہ ایک اتنی محض تھا اور اس لیے اس طبقے اسلامی شریعت کی کامیت ایک خلاصہ نظر آتی ہے جو قیامت سے تمام انسانوں کے لئے ایک لمحہ ذکریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ یہ خلاصہ دعویٰ کہ ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمل کر دیا ہے“ (ہائی: ۳) ایک ابدی و سودی حقیقت کا حال ہے، جس کو انسانی عقل و دانش کبھی لکھا رہیں سکتے۔ بلکہ وہ بجائے خود عقل انسانی کو مہربوت و مشندر کر دینے کے لئے کافی ہے۔

۹۔ اسلامی شریعت کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اُس کے احکام میں اس قدر جماعت اور پیار کو گھبی ہے کہ وہ ہر دور میں پیش آئنے والے نئے نئے مسائل کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس بنابردارو کی دوسری شریعت یا کسی دوسرے قانون کی محتاج نہیں رہے گی۔ اسی بنابر عالمائے اسلام کو نئے پیش آئنے والے مسائل کا عامل بنا کرنے کے لئے قیاس و اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اسلامی شریعت میں ایسے بنیادی اصول و کلیات مذکور ہیں کہ ان کی رووح کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجتہدین امت ہر دور میں نئے نئے معاشرتی و تمنی مسائل و مشکلات کا حل بنا کر سکتے ہیں۔ مگر انہیں خدا کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کرنے یا اُس کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال کرنے کا مطلوب اختیار نہیں ہے۔ بلکہ ایسا افتیار تو خود رسول کو بھی حاصل نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے:

قُلْ إِيَّا يَكُونُ مِنْ أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِيْ تَقْسِيْ : إِنَّ أَتَّسْعُ إِلَّا مَا يُوْحَى
إِلَيْهِ : (لے) محمد، تو کہہ دے کہ میرے اکاہ نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدلوں۔ میں تو صرف اُنیٰ بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بطور وحی پہنچی جاتی ہے۔ (یونس: ۱۵)

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک مجتہد اجتہاد تو کر سکتا ہے، مگر وہ خدا کی شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ یہود و نصاریٰ نے جو کہ اس کا رجھا کب کیا تھا تو اسلام نے اس کی سخت مذمت کی اور اس فعل کو خدا کی خدائی میں شرک قرار دیا، جو شرعاً المحظوظ سے ایک ننگین جرم ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے :

إِنَّهُمْ ذَوَا الْأَحْبَارَ هُمْ وَرْهَبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ : (الْإِلَيْكَ تَابَتْ) الشَّرْكَ

سو اپنے عالموں اور پیروں کو بھی خدا بنالیا تھا۔ (توبہ : ۳۱)

اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ اب کتابتے اپنے علماء و مشائخ کو کبھی اپنا معمود و قارئین دیا تھا بلکہ واقعیت ہے کہ جب وہ ان کے لئے کسی چیز کو حلال کہ دیتے تو یہ اس کو حلال سمجھ لیتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تو وہ (آنکھیں بند کر کے) اس کو حرام سمجھ لیتے۔^{۱۲}

اس اعتبار سے شریعت کے معاملات اور اُس کے ضوابط میں کسی کی مطلقاً تابعداری، یا اُس میں کسی کو قانون سازی کا مطلقاً اختیار دینا بھی مشکل کی ایک قسم ہے۔ اور اس مطلقاً یا غیر مشروط اختیار کسی انسان یا کسی عالم و مجتہد کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب رہا شریعت کے نصوص اور اُس کی رووح کو پیش نظر کر کر قیاس و اجتہاد کرنا اور نئے نئے مسائل کا حکم معلوم کرنا تو خود شریعت ہی نے بڑی فراخ دل کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حضرت معاذؓ کو میں بھیجتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی تھی۔ اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کسی معاملے میں خاموش نظر آئیں تو اس صورت میں قیاس و اجتہاد کرنا ضروری ہے۔^{۱۳}

مغلی یہ کہ جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے وہ نہ صرف جائز و مباح ہے بلکہ ضروری بھی ہے اور جہاں تک خدا کے احکام کو بدلتے کا تعلق ہے تو یہ سخت ناجائز اور حرام ہے، جو مشکل ہی کا ایک روپ ہے۔ کیونکہ اس کا استحقاق صرف اُسی ایک ہستی کے لئے ہے جو سائے جہاں کا ربت اور الٰہ ہے۔ لہذا جو لوگ خدا کے احکام کو بدلتا چاہتے ہیں وہ گویا کہ خود خدا بنایا یا خدا کے رہبے پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات خدا کی ربوبیت اور الٰہیت کو جیلچ کرنے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ شخص خدا نہیں بن سکتا وہ مطلقاً طور پر حکم بھی نہیں چلا سکتا۔ کیونکہ حکم چلانے کے لئے پہلے خدا بننا ضروری ہے۔ یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جو حسب ذیل آیات میں بوری وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے:

تلہ ترذی، طبرانی اور یحیق وغیو، متفقی از تفسیر دمنڈور، علامہ سیوطی : ۳ / ۴۷۰ - ۴۷۱

^{۱۲} تفعیل کے لئے دیکھئے کتاب ہذا کا باب اول۔

اسلامی شریعت علم اور عقل کی میران ہیں

الاَلَّهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ بِرَبِّ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : ہاں دیکھو پیدا کرنا اور حکم چلانا

اُسی کا کام ہے۔ اللہ برخی خوبیوں والا ہے جو سائے جہاں کا رب ہے۔ (اوراف : ۵۲)

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّٰهِ ۖ لَا يَعْلَمُهُ ۖ أَمَّا لَأَنَّا نَعْبُدُ وَإِلَّا إِيَّاهُ ۖ طَذِلَكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ۖ وَلَكُنَّ الْكُفَّارُ

الْقَاطِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ : حکم کرنے اصراف اللہ کی کو زیب دیتا ہے۔ اُسی نے ہدایت کی ہے کہ تم صرف اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ (یوسف : ۳۰)

عائی قوانین کا تعلق دین و شریعت سے

بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ معاشرتی امور یا عالمی قوانین (جس کو پرنسپل لا بھی کہا جاتا ہے) کا تعلق دین و شریعت سے ہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ امور ہیں جو ہر دوسری حالات و زمانے کی رعایت کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے سوادیگر مذاہب میں اس قسم کی تبدیلیوں کو براہمیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ عیسیٰ یا پُرنسپل لا اور ہندوؤں کا سول کوڈ (CIVIL CODE) ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ یوں کو پرنسپل لا تیسری ہندو یا یسوسی سے لے کر چودھویں صدی یا یوسوی تک بذریعہ تشکیل و ترقی پاتا رہا ہے۔ کیونکہ پہلی کے احکام اس سلسلے میں بالکل ناکافی تھے۔ اور ان کے یہاں اس قسم کی تبدیلی کا سلسہ آج بھی جاری ہے۔ اور اس سلسلے میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ یا لوگ رون لا کے ساتھ ساتھ خود اسلامی قانون سے بھی روبرو اخذ و استفادہ کرتے رہے ہیں۔ خود ہندو قانون بھی طلاق اور وراثت وغیرہ امور میں اسلامی شریعت سے متاثر نظر آتا ہے۔ اور فاضل کر 1955ء میں ہندو قانون (HINDU CODE) میں جو متعدد تبدیلیاں ہوئیں وہ تقریباً سب اسلامی شریعت اور اُس کے عائی قوانین (پرنسپل لا) ہی سے مانع ہیں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل انشاء اللہ پھر کبھی پیش کی جائے گی۔

اب یہ بات بالکل صاف ہے کہ غیر مسلم حضرات کے نزدیک چونکہ معاشرتی مسائل و معاملات کا دین فہرست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لئے وہ شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسائل میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو عینہ نہیں سمجھتے۔ لہذا شوری یا غیر شوری طور پر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مسلمان کیوں اس قسم کی تبدیلیوں سے

ناراض ہوتے ہیں! تو اب ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت ہند و قانون، اور عیسائی قانون وغیرہ کی طرح ناقص یا نامکمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہے۔ کیونکہ اسلام ایک سمجھنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے، نہ کچھ چند عقائد و نظریات یا بے جان قسم کے سرم روایج کا مجموعہ۔ چنانچہ اسلام جس طرح عقائد و عبادات کے باب میں واضح ہدایات دیتا ہے، اسی طرح عائلی و معاشری تمام معاملاتِ زندگی میں بھی واضح احکام پیش کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں پیدائش سے لے کر مرтت تک تمام چھوٹے بڑے معاملاتِ زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا کام نام ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت میں کھانے پینے اور حواریج ضروریہ سے فالغ ہونے کے آداب بھی موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی شریعت کا مزراح دیگر قوانین اور شریعتوں سے کیسے مختلف ہے۔

غرض اسلامی شریعت چار قسم کے احکام کے مجموعے کا نام ہے جو یہ ہیں: اعقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ یہ اسلامی شریعت کے چار شعبے ہیں جو ایک سلسلہ نظام کے حال ہیں۔ عائلی یا معاشری امور (پرنسپل) کا تعلق "معاملات" سے ہے۔ اور معاملات کا تعلق پوری نوع انسانی کے ہمیں روابط سے ہے۔ اور اس باب میں قرآن اور حدیث میں واضح ہدایات دیتے ہوئے اہل اسلام کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ان احکام و ہدایات کی پابندی کریں اور کسی بھی صورت میں اخدا کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلے چند عمومی آئیں اور پھر چند خصوصی آئیں (جن کا تعلق خود عائلی قوانین یا پرنسپل لاستہ ہے) پیش کی جاتی ہیں، تاکہ اس باعثے میں جو غلط فہمیں پائی جاتی ہیں وہ دور ہوں اور حقیقت پوری طرح نکھر سامنے آجائے۔ حب ذیل آیت کریمہ ابھی اور پر گزر چکی ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ حکم کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ اُس نے ہدایت کی ہے
کہ صرف اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا طریقہ ہے۔ (یوسف : ۳۰)

یحکم اسلام کے مذکورہ بالا چاروں شعبوں (عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاقیات) پر حادی ہے۔ اور ایک سماں کے لئے یہ حکم خداوندی یہ ہے کہ وہ تمام معاملاتِ زندگی میں صرف اُسی کی فرازبندی کرے۔ اور ایک دوسری آیت کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ وہ اختلافی امور میں فُدا کی شریعت یا اُس کے

قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور گراہ و بے دین لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، جیسا کہ ارشاد ہے:
 وَلَئِنْ أَخْمُمْ بَيْتَنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ: اور قویں کے نازل کردہ
 حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مستقر (ماہہ: ۴۹)
 اس لحاظ سے اللہ کے نزدیک اسلام کے سواد دسر اکوئی بھی دین ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہے،
 جس کی خلاف ورزی مستوجب سزا ہوگی :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُفْلِمَ مِنْهُ؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ: اور جو کوئی اسلام کے سواد دسر دوسرا دین پسند کرے گا تو وہ ہرگز قول ہنہیں کیا جائے گا،
 بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ (آل عمران: ۸۵)

اب آخر میں چنانیسی آیات پیش کی جاتی ہیں جن کا تعلق خاص کرعاںیل قوانین یا پرنسپل لای
 ہے۔ ان آیات کے لاحظے سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں گھریلو مسائل و معاملات کا تعلق بھی دین و شریعت سے
 اسی قدر گہرا ہے جس طرح دیگر معاملات زندگی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے ایک مسلمان کی زندگی کا چھوٹا
 بڑا کوئی بھی عالم دین و شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات ۲۱۱ سے ۲۲۲
 مختلف معاشرتی امور کا تفصیلی بیان وجود ہے، جو کلخ، طلاق، حدود، مهر، رضاعت، نسب اور کلفت
 وغیرہ سے متعلق ہے۔ اور ان احکام وہیں کے دوڑاں جو جگہ جگہ اہل اسلام کو تاکید و تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ حمد
 الہی کا پاس دلخواہ کریں اور اللہ کی همدردی کو کسی حال میں نہ توڑیں، درود وہ ظالم، ناخوش و گرنگی
 ہوں گے۔ دیکھئے یہ باتیں کتنی سختی کے ساتھ اور دلوں کی انداز میں بیان کی گئی ہیں:

تَلَاقُ حُمْدُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُ دُوْهَا؟ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُمْدَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ: یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو میں ان سے تجاوز مرت کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی قائم کرده حدود سے
 تجاوز کریں گے تو وہی ظالم ہوں گے۔ (بقرہ: ۲۲۹)

وَتَلَاقَ حُمْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ: اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو
 وہ اہل علم کے لئے کھوں کر بیان کرتا ہے۔ (بقرہ: ۲۳۰)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتَ اللَّهُ هُزُواً زَوْجًا حُرُمًا وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةُ يَعِظُمُ بِهِ
وَأَنْقُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ شَيْءاً عَلَيْهِمْ : (طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں)
جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے اور پر ظلم کرے گا۔ (الہذا) تم اللہ کی آیتوں کو مذائق بناؤ۔ اللہ کے احباب
کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کتاب و حکمت کی شکل میں نازل کی ہے
تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں صیحت کرے۔ اللہ سے ڈر و اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ۔

(بقرہ : ۲۳۱)

اس آیت کریمہ کے ذریعہ اس ابتدی حقیقت پر بھی روشنی پڑ گئی کہ عائلی قوانین بھی اسی طرح خداوند کریم کے نازل کردہ جس طرح کر دیگر دینی احکام جیسا کہ اس موقع پر "وما انزل عليکم ..."
کے الفاظ غلط ہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ طلاق میں طلاق، حدت اور نفقہ کے بعض احکام بیان کرنے کے بعد صاف انداز میں فرمایا گیا : "ذِلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ" (یہ اللہ کا حکم ہے جو اُس نے تمہارے پاس بھیجا ہے)۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ کے وہ ساتے قوانین جو عائلی نظام پر پہنچ لے سکتے ہیں وہ سب کے سب خدا کے نازل کردہ احکام و قوانین ہیں؛ جن یہی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
پھر ایک دسری حیثیت سے دیکھئے تو نظر آئے گا کہ اُپر جو آیات مذکور ہیں ان میں اگرچہ ذرا سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے، جو عائلی نظام کو درست رکھنے اور لوگوں کو خود غرضی سے روکنے کے لئے ضروری ہی ہے۔ کیونکہ ایسے موقعوں پر لوگ عموماً جذباتی بن کر بے اعتمادیوں کے سر تجھ بہوجاتے ہیں۔ مگر اسی سختی کے موقع پر بھی وہاں حکیم کا اسلوب دیکھئے کر وہ اپنے مخصوص عقلی و علمی انداز بیان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے موقعوں پر بھی وہ علم و حکمت کا داسطر دیتا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ ان عائلی ضوابط (FAMILY LAW) میں بھی اہل علم کے لئے علمی و عقلی اعتبار سے اسباق و بصارٹیں گے، جیسا کہ آیت نمبر ۲۳۱ میں کہا گیا ہے۔ اور آیت نمبر ۲۳۰ میں اللہ کے نازل کردہ قوانین کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین علم اور حکمت سے بھر پور ہیں۔

حامل یہ کہ عائلی قوانین (پرسل لا) کا اتعلق دین و شریعت سے بہت گہرا ہے۔ اور اسلامی شریعت چھوٹے بڑے تمام معاملات زندگی کا احاطہ کرنی ہے، جو اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کا مجموعہ ہے۔ لہذا اسلام پرسل لا کو دین و شریعت سے جدا نہیں اسلام انوں کے دین سے ناقصیت کی دلیل ہے۔ یہ چند حقائق و بصائر ہیں جن کے لاحظے سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ خدا کی شریعت، اُس کے احکام اور اُس کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

وَمَّا تَرَكَ رَسُولُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَمْ يُبْدِلْ لِكَلْمَتَهُ وَهُوَ التَّعْمِيْعُ الْبَصِيرُ : اور تیرے رب کا کلام سچائی اور اعتدال کے لحاظ سے پورا ہوا۔ اُس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور وہی (سب کچھ) سننے اور جانتے والا ہے۔ (انعام : ۱۱۵)
هَذَا بَصَارُ اللَّاتِ اِسْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ : یہ قرآن عام لوگوں کے لئے بصیر توں سے بھر پورے اور یقین کرنے والوں کے لئے ہدایت و رحمت کا باعث۔ (جاثیہ : ۲۰)
مُسْلِمَانُوْں پر ایک نام عقول الزام

اوپر کے مباحث سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ اسلام اور اُس کی شریعت نہایت درجہ عقول اور حکیمانہ بنیادوں پر قائم ہیں، اور ان میں بے عقل یا دغدغی نویسیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس کے تمام احکام علم و عقل کی روشنی میں دن بدن بکھر کر سامنے آئی ہے میں، اور ان کی اہمیت و افادیت کی بنابر اب ترقی یافتہ قومیں تک اپنا نے پر خود کو مجبور پا رہی ہیں۔ لہذا اسلامی شریعت کو فسرودہ یا اُوٹ آف ڈیٹ یا رجت پسندی کی علامت ڈار دینا اسلامی شریعت سے ناقصیت کا ثبوت ہے۔ تعجب ہے کہ اسلام کے جو احکام خوبیوں سے بھر پورا درود رکے لئے مفید اور کار آمد ہوں، انہیں محض قومی یا مذہبی تعصب اور پوچشت کے زور پر ناکارہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر جہاں تک لیں اور استدال کا اتعلق ہے اس قسم کے لوگ بالکل تھی مایہ ہیں۔ اسلامی احکام و مسائل پر گفتگو علم و عقل کی روشنی میں اور شبہ بنیادوں پر ہوئی چاہئے۔ نہ کہ منفی بنیادوں پر اور تعصبوٹی الزامات غائزہ کر کے۔ قرآن مجید پوچکر

سر اپا دلیل و بُرہان ہے، اس لئے وہ دلیل و استدلال کے مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے اور ایسے لوگوں سے علمی و عقلي دلائل طلب کرتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی علمی و عقلی دلیل کے کسی مٹے پر گھنٹوں کرنا چاہتے ہوں ان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگ بخشنجد بکری بن اپرایسا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دل "ناخنوں" یا "مہرشدہ" ہیں۔ کیونکہ قبول ہوتے مُسلسل اعراض و انکار کے باعث ان کے دلوں پر خود بخشنجد بکری ہے۔

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الْآيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ أَتَهُمْ كَبُرُّ مُفْتَأِعِنَّ اللَّهَ وَعِنَّ الدَّيْنِ أَمْتُوا كَذِيلَكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى حَكْلٍ قَلْبٌ مُمَكَّرِرٌ جَبَارٌ : جو لوگ اللہ کی آیتوں یعنی کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس پہنچنی ہو، تو یہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک بڑی نازیبا حرکت ہے۔ اللہ اسی طرح ہر بکر کرنے والے کرش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ (مومن: ۲۵)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الْآيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ أَتَهُمْ لَا إِنْ فِي صَدُورِهِمْ لَأَكْبَرُ مَا هُمْ بِالْغَيْبِيِّوْ : فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ لَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : جو لوگ اللہ کی آیات (احکام و دلائل) میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس (علمی و عقلي ذریعہ سے) پہنچنی ہو (خواہ خواہ) جھگڑنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یقیناً چند بڑائی کے اور کچھ نہیں ہے، جس کو وہ (علمی اعتبار کے کسی بھی طرح) پا نہیں سکتے (بلکہ ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے)۔ لہذا تو اللہ سے پناہ مانگ۔ وہی شنسنے اور دیکھنے والا ہے۔ (مومن: ۵۶)

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ خدا کے احکام اور اس کی باقی کوئی بھی دور میں صحیح علمی و عقلي استدلال کے ذریعہ چلجنے نہیں کیا جاسکتا۔ نوع انسانی اور اس کے علم و عقل کو جھنڈوڑنے کا اس سے بردا اور اچھوتا اسلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ صفات میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی جا سکی ہے کہ وہ صحیفہ قرآن مجید ہی ہے جو اس جہاں آب و غاک کی ہر چیز میں حکمت تخلیق دریافت کرنے پر انجام رہتا ہے۔ جس طرح کریم اللہ علی احکام دا امر کی حکوم اور مصلحتوں کا کھوج لگانے پر بھی زور دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات (یعنی نظام فطرت کے دلائل اور نظام شریعت کے احکام) میں جھگڑنے والوں کے پاس

اسلامی شریعت علم اور عقل کی میران میں

سرھے سے کوئی دلیل و محبت موجود نہیں ہے (سوائے بعض منفی قسم کے شہادات و اعتراضات کے)۔ تو یہ فرع انسانی کے لئے درحقیقت ایک چلنگ ہے کہ وہ اپنے "علیٰ عقليٰ دلائل" لے کر اس میدان میں آئیں اور فدرا کی باتوں کو صحیح منطقی استدال کی بنابری غلط ثابت کر دکھائیں۔ مگر قرآن عظیم کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک فدرا کی بات ہی صحیح ہے گی اور اسی کی جدت غالب رہے گی :

قُلْ فَلِلّهِ الْجَلُوَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُ الدَّلَامُ أَتَيْعَيْنَ : كَمْ دَوْكَرَ اللَّهُ هِيَ كَمْ جُوتَ

غالب رہے گی۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت نہ دیتا۔ (انعام : ۱۳۹)

اس آیت میں اللہ کی اسنیت اور اُس کے ایک ابدی قانون پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اللہ کا کام تو محض دلائل و برائین کے ذریعہ اتمام جبست کر دینا ہے، نہ کہ سب کو زبردستی ہدایت دے دینا۔ ظاہر ہے کہ اگر زبردستی ہدایت فے دینا مقصود ہوتا تو پھر دلیل و استدال کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ اور ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ جو لوگ استدال کے میدان میں غلوب ہو جانے کے باوجود محض ہست دھرمی کی وجہ سے جھگڑنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کی منطق باطل ہے، اور ایسے لوگ خدا کے غضب کے مستحق ہوں گے۔

وَالَّذِينَ يَحْجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَحْيَيْتَ لَهُ حُجَّتْهُمْ دَاهِجَةً
عِنْدَ رِتْبَهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ : اور جو لوگ اللہ کے (دین و شریعت کے) بالے میں جھگڑتے ہیں، جب کہ لوگ اس کو (پہلے ہی دلائل کی بنابری) مان پچکے ہوں، تو ان کی جدت ان کے رب کے ہاں باطل ہے۔ اور ان کے لئے غضبِ الہی اور سخت عذاب ہو گا۔ (شوریٰ : ۱۴)
 ان تمام ملاحظات سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلام اور اسلامی شریعت حد درجہ عقول ہیں جو علم و عقل کی ضبط بنيادوں پر قائم ہیں۔ لہذا مسلمانوں اور ان کے دین و شریعت پر کسی بھی حیثیت سے رجعت پسندی کا ازالہ اعمال نہیں ہو سکتا بلکہ اس قسم کے الزامات حقیقت واقعہ سے بہت دور ہیں۔ اور اکمل ان مسلمانوں پر جو مذہب پر عمل کرتے ہیں ایک نئی بھیتی "بنیاد پرستی" (FUNDAMENTALISM) کے نام سے کسی جاتی ہے۔ معلوم نہیں اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ اصطلاح استعمال کرنے والے

اس کا مطلب نہیں بتاتے۔ آجکل اخبارات میں یہ اصطلاح بکثرت استعمال ہونے لگی ہے اور سیاست دانوں کی زبان پر چڑھنے لگی ہے جو بلا سوبے تجویز تھیں اپنے دل کا بخار بخالنے کی غرض سے اس کا بے تحاش استعمال کرنے لگے ہیں۔ اگر اس کا یہ طلب ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں پر زور دیتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی تلقین میں کوئی بُرائی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دستوری اعتبار سے ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا حق ہے۔ ہاں اگر اس سے کسی دوسرے مذہب یا فرقے کے ساتھ عداوت اور شہنی کا پرچار ہو تو یہ دوسری بات ہے۔ اس اعتبار سے اگر بنیاد پرستی کا مطلب مذہب پسندی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں سیکولرزم کے ساتھ کوئی فکراؤ نہیں ہے۔

مگر آجکل ”بنیاد پرستی“ اور اسی طرح ”ظلمت پسندی“ وغیرہ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے گویا کہ مذہب پسندوں کو کوئی گالی دینا مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ”ترقی پسندی“ کے دعویداروں کو زیب نہیں دیتا۔ بلکہ یہ بالکل ایسی ہی حرکت ہے جیسے کسی راہ چلتے ہوئے شریف آدمی کے سر پر ٹلاوہ مریض ایک چپت رسید کر دی جائے۔ اسی طرح آجکل مذہب پسندی کو ترقی پسند کی خدمت ہمجا جاتا ہے جو ایک غیر واقعی بات ہے۔ کیونکہ مذہب کرمانے والا بھی ترقی پسند ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ لازمی طور پر ترقی پسند ہیں ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ:

”قدیمتی سے کچھ لاگ مذہب کے ڈسپلن اور اخلاقی اصولوں کو اپنے لئے زحمت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور ان اصولوں اور اس ڈسپلن کی خلاف درزی کو جائز شہر لئے کرنا کو ترقی پسند اور ان اصولوں کی پابندی کرنے والوں کو ظلمت پسند کہتے لگتے ہیں۔ جس سیکولرزم کے نام پر مذہب کے تحفظ کا مطالباً کیا جاتا ہے، اسی سیکولرزم کے نام پر مذہب سے انحراف بھی کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس انحراف کو ترقی پسندی کہنا اس اصطلاح کا مذاق اڑانے کے متtradف ہے“ (ایک اقتباس)

اجتہاد اور اُس کے نئے آفاق

پندرھویں صدی کی ایک تجدیدی ضرورت

شریعت اور فقہ کا تعلق

اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک کامل اور ابدی مذہب ہے۔ اور اُس کی شریعت نہ صرف سائے جہاں کے لئے بلکہ تمام زماں کے لئے بھی خدائی قانون ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی قانون میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا احاطہ کر دیا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت یا قانون میں تمام مسائل کا احاطہ لفظاً تو نہیں البتہ معنوی طور پر ضرور ہے۔ یعنی اصولی اعتبار سے اس میں سائے مسائل کا حل ضرور موجود ہے۔ اسلامی شریعت میں چند ایسے اصولی احکام و قواعد موجود ہیں جن پر قیاس کر کے ہر دور میں اُن کے منشاء و مفہوم کے مطابق نئے نئے مسائل کا حل معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی کا نام قیاس و اجتہاد ہے۔

دور قریم میں علماء و فقہاء نے اس سلسلے میں اقدام کر کے ایک عظیم الشان ذخیرہ ہمارے لئے تیار کر دیا ہے، جو ہمارے لئے ایک بہترین مثال اور رہنا کا کام دے سکتا ہے۔ فہمائے کرام کا

تیار کردہ یہ ذخیرہ آج ہمارے سامنے "فقہ" اور "اصولِ فقہ" کے عظیم الشان دفتروں کی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ سارا ذخیرہ دراصل قرآن اور حدیث کے اصولی احکام یا ان کے "نصوص" (واضح اور صريح بیانات) کی روشنی میں مرتب کردہ ہے، جو ہمارے لئے ایک "نظیر" یا RULING کا کام دے سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے چھوٹی عدالتیں کسی بھی فیصلے کے سلسلے میں اپنے سے اُپر والی عدالتوں نینی پسروں کو رٹ اور پھر ہائی کورٹ کے فیصلوں کی پابندیوں ہیں۔ اور ان کے فیصلوں (RULINGS) کو بطور نظیر اختیار کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے کسی ملک کے دکتور اساسی کے ابہامات و اجالات کی تشریع و توضیح کا سب سے پہلا حق پسروں کو رٹ کو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کو۔ اور اس نئی تمام تشریحات اور فیصلے ماتحت عدالتوں کے لئے قابلِ محنت ہوتے ہیں۔

بھی حال اسلامی شریعت کا بھی ہے۔ اگر اسلامی شریعت کو ایک بنیادی دستور (CONSTITUTION) تسلیم کر لیا جائے تو اس کے ابہام و اجال کو دوڑ کرنے کے سلسلے میں جماعتِ کرام اور ائمہ دین کی تشریحات اور ان کے وضع کردہ اصول و قواعد بھی بعد والوں کے لئے ٹھیک اسی طرح نظیر یا "رُولنگ" کے مرتبے پر فائز نظر آتے ہیں، جنہیں نہ تو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور نہ ان سے مستفی ہو کر قیاس و اجتہاد ہی کیا جاسکتا ہے۔

خلافہ یہ کہ اول تواریخ میں ابہام و اجال کو حدیث رسول کی مدد کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ پھر قرآن اور حدیث (جو کہ شریعت کا اصل مدار ہیں) کے اجالات و ابہامات کو صحیح کرام اور ائمہ و مجتہدین کی تشریع و توضیح اور ان کے اصول و قواعد کے بغیر سمجھنا سخت مشکل ہے۔ لہذا

لہ "فقہ" کے لغتی معنی فہم باسمجھ بوجھ کے ہیں۔ اور اس کے لغتی معنی دین کی بھج بوجھ کے ہیں۔ جب کہ اصطلاح میں اس کا الطلاق اُن حکماً و قوانین پر ہوتا ہے جن کو فہماء نے قرآن اور حدیث سے مستبط کر کے مرتب کیا ہو، یعنی "مجموعہ وسائل" یا "احکام شریعت کا علم" ۔ لہ اس سے مراد وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر نقد مرتب کی جاتی ہے۔

آجکل بعض نامنہاد انشوروں اور خود ساختہ فقیہوں کی طرف سے فہمائے کرام پر خواہ خواہ اعتراض کرنا اور ان پر کچھ اچھا نہ اسلامی شریعت کے خلاف ایک سوچی سمجھی ساز شمول ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فہمائے کرام پر بے جا اعتراضات کر کے نہ صرف ان کی عظیم کوششوں اور کاوشوں پر پانی پھیر دیا جائے بلکہ عوام کو پورے فقہ اسلامی (ISLAMIC LAW) سے بذلت کر دیا جائے، تاکہ وہ من مانی طور پر قرآن کی تشریع کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی آزاد ائمہ تفسیر کی راہ میں مذکورہ بالا تشریفات و تفصیلات سخت "رکاوٹ" کا باعث ہیں۔ لہذا اس سب سے بڑی رکاوٹ کو مذکرنے کے لئے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔

حالانکہ واقعہ کے لحاظ سے تو ہمیں فہمائے کرام کا ممنون اور احسان مند ہونا چاہیے کہ اُنہوں نے اس سلسلے میں نہایت درجہ عرق ریزی اور جانشناکی کے ساتھ ایسے اصول مرتب کر دیے جو ہمارے لئے ایک رہنمای اور گاہیڈ کا کام نہ سکتے ہیں۔ اور تم ان اصولوں کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کی حکمتوں اور مصلحتوں کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں بلکہ نئے نئے مسائل کا حل بھی دیتا کر سکتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ دو اہم ترین مقاصد ہیں جو ہمیں فقہ اسلامی اور ان کے اصولوں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

قیاس و اجتہاد مذموم کب ہوتا ہے؟

اس سلسلے میں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن اور حدیث ہی اسلامی شریعت کی جمل بنیاد ہیں، جن یہی کسم کی تبدیلی خارج از بحث ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کے نصوص بذات خود مکمل ہیں۔ لہذا ان میں قیاس و اجتہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ نصوص کی موجودگی میں قیاس میں اجتہاد بجائے خود باطل قرار پاتا ہے۔

چنانچہ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے الیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے اپنے غلط قیاس کے ذریعہ یہ استدلال کرنا چاہا کہ آدم جو نکر گلہ ملاحظہ، بواسطہ المُوقِعین، از علامہ ابن قیم، ۳۹۱/۱، مطبوعہ قاہروہ۔

مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہذا میرا مقام و مرتبہ آدم سے اونچا اور بالاتر ہے تو یہیں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے الہیں کے استدلال ..

(ARGUMENT) کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ اس کو صاف صاف مردود اور عذری ٹھرا دیا۔ کیونکہ اُس نے خدا کی حکم ماننے سے محض اپنے غلط قیاس کی بنا پر انکار کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فدائی حکم کے مقابلے میں قیاس کام نہیں ہے سکتا۔ کیونکہ فدائی حکم سراپا عدل ہوتا ہے، جس میں چون پڑا کی تجھاش نہیں ہوتی۔ لہذا ایک نون مسلم کے لئے خدائی احکام کو محض استدلال کی بیان د پر رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں البته وہ احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے غور و ذکر کے ذریعہ ان احکام کی حکمتیں اور مصلحتیں ضرور معلوم کر سکتا ہے، تاکہ وہ غیر مسلموں کو اپنی شریعت اور قانون کی معقولیت بیخاکے اور ان کے سامنے اسلامی شریعت کی برتری ثابت کر سکے۔ کیونکہ اسلامی شریعت سراپا عدل اور سراپا دالش ہوتی ہے۔

فہم نصوص میں اختلاف ہو سکتا ہے

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ مجموعی اعتبار سے "فہم نصوص" میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک آیت سے کوئی عالم کچھ سمجھے تو دوسرا کچھ، کیونکہ قرآنی آیات میں بڑی پہلی اور اُس کے معانی میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اور اس میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی و مطالب سیمیٹ رکھنے گے ہیں۔ جو حقیقتاً کلیات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے بہت سے جزوی احکام وضع کئے جاسکتے ہیں۔

اسی وجہ سے حدیث شریف کے مطابق قرآن کو "جَوَامِعُ الْكَلِمَ" (جامع کلمات) کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم "اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ : "مقصود یہ کہ نصوص کے فہم میں لوگوں کا تفاوت ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ ان میں سے کوئی عالم کسی آیت سے ایک یا دو احکام ثابت کرتا ہے تو دوسرا اس سے دس یا اس سے زیادہ احکام نکالتا ہے۔ جب کہ

۲۷۔ بخاری کتاب الاعظام، ۱۲۸/۸ (بُيْعَثْتَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمَ) طبعہ استبانوں۔

کسی کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آیت کے سیاق کو سمجھے بغیر محض ایک لفظ کے معنی ہی سمجھ سکے گی۔ چنانچہ اس کی مثالیں اور فقہاء کے مخیر العقول کا راستے دیکھنے ہیں تو ”احکام القرآن“ کے موضوع پر مختلف مصنفین کی کتابیں دیکھنی چاہئیں۔ مثلاً علام جعاص رازی حنفی کی احکام القرآن اور قاضی ابو بکر ابن العربي کی احکام القرآن دیغرو۔

اس اعتبار سے قرآن حکیم کے اسرار و عجایب کی کوئی انہتاء نہیں ہے، جو دراصل

اُس کا حیرت انگیز اعجاز ہے۔ اور اس باب میں فقہاء کا اختلاف بھی ”فهم نصوص“ ہی کا اختلاف ہے، جس کی بنیاد پر فقہ کے مختلف مسلک یا مکاتب فخر بن گئے۔ مگر قرآنی آیات کے فہم و تفاوت کا یہ اختلاف ”اجتہاد“ کے ذیل میں نہیں بلکہ ”تفسیر“ کے ذیل میں آتا ہے۔

قیاس و اجتہاد کی حقیقت

اب رہا معاملہ فقہاء کے قیاس و اجتہاد کا تو یہ دراصل قرآن اور حدیث کے نصوص سے نئے مسائل کا حل نکالنا ہے جو تشریع و تفسیر سے ایک زائد چیز ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث کے ”أصول“ سے ”فروع“ یا اُن کے ”گلیات“ سے ”جزئیات“ کا استنباط بھی کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث میں بعض احکام (COMMANDMENTS) کی ایسی ”علتیں“ (REASONS) بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر بعض غیر مذکور شدہ یا نئے مسائل کا حکم معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر اس طرح آیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالآثَارُ لَمْ يُنْهَى
مِنْ عَنِ الشَّيْطَنِ فَإِنْ تَتَبَرَّغُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ
يُفْرِقَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمَغْضَابَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَدَ كُلُّهُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعِنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَتَمُّمْ مُنْتَهُوْنَ : لے ایمان والو (جان لوکر) شراب، جو، بُریں
(کی تنصیب) اور فال کے تیر (چھوڑنا) یہ سب گندہ کام ہیں جو شیطانی عمل ہے۔ لہذا تم ان سے

بازہ ہوتا کہ نجات پاسکو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تم میں دشمنی اور بعض پیدا کرنے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟
(مائدہ : ۹۰ - ۹۱)

قرآن حکیم کی اس قصرت کے مطابق شراب کی حرمت اگرچہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اول تو وہ ایک گندہ کام (رجس) ہے، پھر وہ ایک شیطانی عمل ہے، اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اُس کی سب سے بڑی خبری یہ کہ جس کو بریت لگ جاتی ہے وہ یادِ الہی سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ گراس موقع پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس چیز کو "خر" کہا گیا ہے وہ بذاتِ خود کیا چیز ہے؟ یعنی وہ کوئی شراب ہے؟ کیونکہ خر کا اطلاق مختلف قسم کی شرابوں پر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام راغب تحریر فرماتے ہیں :

"خر کی اصل کسی چیز کو چھپا لینا ہے۔ اور چونکہ وہ عقل کو چھپا دیتی ہے (یعنی اس کو زائل کر دیتی ہے) اس لئے شراب کا نام خر پڑا گی۔ بعض لوگوں کے نزدیک خر کا اطلاق ہر قسم کی نشہ اور شراب پر ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک خاص کر انگور یا کھجور کی بنی ہوئی شراب کو خر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ خروہ ہے جوان دود رختوں یعنی کھجور اور انگور سے بنی ہوئی ہو۔ اسی طرح بعض کے نزدیک خروہ ہے جو کبی بنی ہوئی نہ ہو۔"

اس بنابر مکن تھا کہ شراب اصلًا حرام ہوتے ہوئے بھی اس "لفظی ہیر پھیر" کی بنابر حرام نہ رہ جاتی بلکہ امت کے لئے ایک فتنہ بن جاتی۔ لہذا حدیث رسول میں صاف صاف نہ مرفیک کہ اُس کی صحیح تعریف کر دی گئی ہے بلکہ پوری وضاحت کے ساتھ ایک ایسا ضابط بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کی بنابر اس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ رہ جائے اور اس قسم کا کوئی بھی رخن باقی نہ رہے۔ چنانچہ "صحاح سنت" میں اس سلسلے کے بعض اصول مذکور ہیں۔ مثلاً :-

اسلامی شریعت علم اور فقہ کی میزان ہیں

کُلْ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَ كُلْ مُسْكِرٍ حَرَامٌ : ہر نشہ اور چیز شراب ہے اور ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔

كُلْ شَرَابٌ أَشَكَّ فَهُوَ حَرَامٌ : ہر وہ مشروب جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔
مَا أَشَكَّ كَثِيرٌ فَقَلِيلٌ هُوَ حَرَامٌ : جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اُس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔

ان تین گلیات میں اتنی جامعیت ہے کہ نہ صرف شراب بلکہ دنیا کا ہر وہ مشروب جو نشہ اور ہر وہ سب حرام قرار پاسکتا ہے۔ اور اس باب میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہے بلکہ اور پھر جو چیز زیادہ پیسے نشہ لاسکتی ہے اُس کی تھوڑی سی مقدار یا اُس کا چکھنا بھی حرام ہے۔ اس طرح ان ہر تک احادیث سے اس سلسلے کے ساتھ "چور دروازے" پوری طرح بند ہو جاتے ہیں۔
غرض اس طرح "نص حدیث" کے مطابق ماصل یہ ہوا کہ جو بھی چیز نشہ اور ہر وہ حرام ہے۔ کیونکہ اس کے باعث دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ دور قدیم میں فہماونے شراب کی حرمت کی وجہ "نشہ" قرار دے کر حکم لگایا کہ وہ تبیذ (کھجور وغیرہ کا شیرہ) جو نشہ لائے اُس کا بھی یہی تبیذ ہے، اگرچہ یہ لفظ قرآن اور حدیث میں مذکور نہ ہو۔ کیونکہ ایک اصولی حکم اور اُس کی علت (REASON) معلوم ہو جانے کے بعد جس چیز میں بھی یہ علت موجود ہوگی، وہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الاشرب، ۲/۱۵۸، مطبوعہ ریاض۔

۲۔ صحیح مخارقی، کتاب الضرر، ۱/۶۶، مطبوعہ استاذ۔

۳۔ سنن ابوداؤد، کتاب الاشرب، مطبوعہ حفص (شام)۔

نہ داعی ہے کہ عرب زبان میں اُردو کے برعکس لفظ "شراب" مشروب کے معنی میں آتا ہے، اور اس اعتبار سے دو بانی یا دو دوہ و نیزہ بھی ہو سکتا۔ جب کہ اصل شراب کو عربی میں خرکہا جاتا ہے۔

الله دیکھئے کتاب "أصول الفقه" از محمد خضری بک، ص ۲۲۵، نیز "علم اصول الفقه"

از عبد الراب غلاف، ص ۵۳۔

"قیاس" کے لفظی معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد "حکم شرعی" میں کسی علت کی بنیاد پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگانا ہے؛ "اللہ یعنی دو چیزوں کا حکم مشترک علت کی بنیاد پر ایک قرار دینا ہے۔

اس اعتبار سے موجودہ دور میں جو نئی نئی قسم کی مشرابیں بن رہی ہیں مثلاً شیپسین، ڈیسکی، زم، بیر اور برانڈی وغیرہ یہ سب اسی علت کی بنیاد پر حرام ہیں۔ اور اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار سے نشہ آسکتا ہے اُس کی تقلیل مقدار بھی حرام ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے فلاں فلاں قسم کی شراب سے نشہ نہیں ہوتا، یا اتنی مقدار سے نشہ نہیں ہوتا لہذا مجھے اس کی اجازت ملی چاہے۔ اس قسم کے استثناء کی ایک داعی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ خدائی قانون ہر فرد، ہر دوڑا اور ہر جگہ کے لئے ایک ہوتا ہے۔

اسی طرح موجودہ دور کے نئے نئے مثلاً افیم، کامبج، بھنگ، حشیش، بیر و شن، اور براؤن شوگر وغیرہ ہر قسم کے مٹشیات (DRUGS) بھی حرام ہیں۔ کیونکہ ان سے بھی نہ صرف یہ کہ عقل فاسد ہو جاتی ہے بلکہ انسانی صحت پر اس کے بہت بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ اب دیکھئے یہ تمام چیزوں اسلامی شریعت میں لفظاً تو موجود نہیں ہیں، مگر معنی طور پر ان سب کا احاطہ موجود ہو سال پہلے ہی کریا گیا ہے۔ یہی حال دیگر تمام مسائل کا بھی ہے۔ اس طرح ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حکم اسلامی شریعت میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی کا نام اجتہاد ہے۔ چنانچہ اجتہاد کے لغوی معنی کوشش یا جدوجہد کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد وہ جدوجہد ہے جو قرآن اور حدیث میں بغیر مذکور یعنی نئے مسائل کا حکم دوچہری شریعت کے مطابق معلوم کرنے کے سلسلے میں ہو۔

یہے اسلامی نقطہ نظر سے قیاس و اجتہاد کی صحیح حقیقت و مہیت کروہ جدید مسائل و مشکلات جن سے انسانی معاشرہ کسی دور میں دوچار ہوتا ہے، اُن کا شرعی نقطہ نظر سے حکم

معلوم کرنا یا اُن مسائل کے تعلق سے شریعت کا نقطہ نظر واضح کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ مذکور ایک انسانی اور تمدنی ضرورت ہے بلکہ خود ایک شرعی و فہقی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ شریعت نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے نازل کی گئی ہے۔ لہذا نئے نئے مسائل میں انسان کی رہنمائی کرنا شریعت کا فرض ہے۔ اور یہ فرضہ ہر دور میں اہل شریعت پر عائد ہوتا ہے کہ اُن کے درمیان ہر دور میں ایسے مجتہد ضرور موجود ہوں جو نئے نئے مسائل کا حل معلوم کر کے عالم انسانی کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں۔ ورنہ شریعت کے دعوائے کمال و دوام پر حرف آسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کامل اور دائمی شریعت کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہدیثہ مشکل مسائل اور قضیہ جات کو اپنے ابدی اصولوں کی روشنی میں حل کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اہل شریعت کی ذرداریاں بہت زیادہ ہیں۔ لہذا اب انہیں پیغمبر کی طرح محسوس کرتے ہوئے اس میدان میں پیش رفت کرنا چاہئے۔

احکام شریعت میزان عقل کے مطابق

اس بحث سے ضمناً یہ بھی ہے۔ گیرا کر عقلی اعتبار سے جو چیزیں مضرِ صحت ہوئی ہیں اُن سب کو اسلامی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی شریعت مذکور ایک معقول اور برتر شریعت ثابت ہوتی ہے جو نوع انسانی کے مفاد کے لئے اُن کی گئی ہے، بلکہ دیکھ پاکیزہ اور صحت مند قانون کی حالت بھی نظر آتی ہے جس میں نوع انسانی کا تحفظ اور اس کی بقا کا راز مضمرا ہے۔ جب کہ دنیا کے دیگر مذاہب اور قوانین میں شراب پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ یا اگر ہے بھی تحفظ برائے نام۔ اس اعتبار سے بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق بالکل واضح ہے۔

غرض اسلامی شریعت عقلی و استدللی اعتبار سے ایک ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی شریعت اور کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۱۵۷ھ) اپنی ایک قابل قدر اور معکرۃ الارکتاب "اعلام المؤقین" میں قیاس و اجتہاد کے موضوع پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں : "احکام شریعت تمام کے تمام قیاس صحیح کے موافق ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم قیاس صحیح کی میزان کے

اجتہاد و اس کے نئے آفاق
خلاف نہیں ہے۔^{۱۳}

گویا کہ احکام شریعت سراپا عقل اور سراپا علم ہیں، جنہیں کسی بھی دور میں علم انسانی منظرِ صحیح کی بنیاد پر چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تمدنی علم و حکمت پر مبنی ہوتے کی بنا پر سراپا عدل اور سراپا مصلحت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی احکام میں خور و خوض کر کے ان کی علیتیں اور حکمیتیں معلوم کرنے پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ تفصیل پچھلے ابواب میں گزروچکی ہے۔ چنانچہ علامہ ابواسحاق شاطبی مالکی (متوفی ۷۹۰ھ) اس سلسلے میں اپنی کتاب "المواقفات" (جو اصول شریعت کی ایک جلیل القدر تصنیف ہے) میں تحریر فرماتے ہیں کہ : "شرعی دلیلین عقلی امور و قضایا کے معنی نہیں ہوتیں" (الادلة الشرعية لامتنافى قضایا العقول)۔^{۱۴} اور پھر اس اصول کی تشریع کئی صفات میں کی ہے۔

اسلام میں قیاس کا مقام

غرض قیاس انسانی فطرت میں داخل ہے، جس سے اخلاق نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا دین میں بھی وہ پوری طرح مطلوب ہے۔ اور اس اعتبار سے دین و فطرت کا ربط و تعلق بھی پوری طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے وہ دین دین نہیں ہو سکتا جو انسانی فطرت اور اس کے داعیات کے خلاف ہو۔ یعنی جو انسانوں کے عقل و قیاس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہو۔ مگر اسلام میں نہ صرف یہ کہ صحیح عقل و قیاس کی تعریف کی گئی ہے بلکہ عقل و قیاس کو کام میں نزلانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں چوپائے وقار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اسلام میں عقل و خردمندی کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب کہ دنیا کے دیگر بڑے بڑے مذاہب میں عقل و خرد کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ واقعیہ ہے کہ اسلامی شریعت کی عقلیت پسندی اور مصلحت آفرینی ہی کے باعث اجتہاد ممکن ہو سکا ہے۔ کیونکہ اجتہاد قیاس کی بنیاد پر ہوتا ہے اور قیاس کے لئے صحیح علت یا

^{۱۳} اعلام الموقعين، ۱/۳۹۱، مطبوعہ قاہرہ۔

^{۱۴} المواقفات، ازالہ اسحاق شاطبی، ۲/۲۷، مطبوعہ بیروت، ۱۳۹۵ھ۔

اسلامی شریعت ململ اور عقل کی بیزان ہیں

مصلحت کا لالاش کرنا ضروری ہے، جو عقلیت پسندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ عظیم الشان خصوصیت ہے جس کی بنابر اسلامی شریعت دنیا کی دیگر تمام شریعتوں اور اسی طرح دنیا کے تمام وضعی یا انسانی قوانین سے متاز نظر آتی ہے۔ اور اس کا ایک اور لازمی تجھیہ یہ ہی ہے کہ اسلامی شریعت میں کوئی چیز غلافِ عقل یا خلافِ قیاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ یقیناً ایک خدائی مجہز ہے جو بشری طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ دنیا کی تائیخ شاہد ہے کہ آج تک کسی انسان یا انسان کی جماعت نے مل کر ایسا کوئی قانون پیش نہیں کیا جو ہر اعتبار سے مجہز ہو۔

غرض اسلام میں قیاس و اجتہاد کا دروازہ سب سے پہلے خود صاحبِ کرام ہی نے کھلا تھا: خصوصاً تعلیفِ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں چند رہنماء اصول قائم کئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کا وہ مکتوب گرامی جو آپ نے والی بصرہ حضرت ابو مونی اشڑی کو لکھا تھا وہ اصول فقہ کی ایک بیش بہتر ایمنی دستاویز کا درجہ رکھتا ہے، جس میں آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا تھا:

..... شَمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ، فِيمَا أَذْلَى إِلَيْكَ مَا دَرَدَ عَلَيْكَ، فَمَا لَنِيَسَ فِي قُرْآنٍ
وَلَا سُنْنَةَ، شَمَّ قَالَسِ الْأُمُوزَعِنَدَ ذَلِكَ، وَأَغْرِفِ الْأَمْثَالَ، شَمَّ اتَّهَدَ فِيمَا تَرَى
إِلَى أَحَيَّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهُهَا بِالْحَقِّ: إِنَّ دِيْمُوْأَنَّ تَامَّ أُمُورِيْنِ فَهُمْ وَأَوْرَاكَ سَهْلَ لِيْلَا
جَوْهِمَهَا سَاسَتِيْنِ پِيشَ ہُوْنَ، جَنَّ كَاهِمْ قَرَآنَ اور سُنْنَتِيْنِ مَوْجُودَنَ ہُوْنَ۔ قَوْمَ إِلَيْسَ وَقَوْمَ مَعَالَاتَ
کو ایک دوسرے پر قیاس کرو اور مثالوں کو پہچانو۔ بھرُمُ اپنی رائے میں افس فیصلے کو اختیار کرو
جو خدا کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور اقرب الی الحق ہو۔

حضرت عمرؓ کا یہ اصول آرج "أصول فقہ" کی ایک مستند ترین بنیاد ہے۔ اور اس میں "مثالوں کو پہچاننے" کی جوبات کی جگہ ہے وہ دین و شریعت اور فقہ کی ایک اہم ترین اساس ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابن قیتم تحریر فرماتے ہیں کہ: "ہم مثل چیزوں کو ایک دوسرے سے

ملا نایا ایک مثال کو دوسری مثال سے سمجھنا ہی دین کی اصل ہے۔ اور اسی وجہ سے شاعر نے اپنے احکام میں ایسی علتیں اور صفتیں بیان کی ہیں جن کے ذریعہ ایک حکم کا تعلق دوسرے سے ظاہر ہو اور جہاں کہیں بھی یہ علت پائی جائے اُس پر وہی حکم لگایا جائے ॥^{۱۷}

اس قسم کے قیاس عقلی (ایک چیز کو دوسرے کے مقابل سمجھنے) کا حال خود قرآن حکیم ہی سے معلوم ہوتا ہے، جس میں پالیس سے زیادہ عقلی مثالیں (امتال) بیان کی گئی ہیں، جو عقلی قیاست ہی کی مثالیں ہیں۔ چنانچہ قرآن میں حیاتِ ثانی کو امکان کے اعتبار سے حیاتِ اول پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور موت کے بعد مرد دوں کی دوبارہ زندگی کو بارش کے بعد زمین پر رُونما ہونے والی سرسبزی و شادابی "زمین کی مردہ حالت کے بعد اُس کی دوبارہ زندگی" پر قیاس کیا گیا ہے۔ (یعنی جس طرح بارش ہونے کے بعد زمین دوبارہ جاگ پڑتی ہے گویا کہ وہ مردہ حالت سے دوبارہ زندگی کا قابل اختیار کر لیتی ہے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی دوبارہ ممکن ہو سکتی ہے)۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن ہی عقل و استدلال پر ابھارا گیا ہے۔ چنانچہ حیاتِ ثانی کو حیاتِ اول پر قیاس کرنے کی ایک مثال طاحظہ ہو:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّحْمَةَ فَتُبَيِّنُهَا فَسُقْنَةُ الْأَيْمَانِ بَلَدٌ مَيْتٌ فَأَخْيَيْنَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذِيلَ النَّشُورُ : اور وہ انشد ہی ہے جس نے ہواں چلائیں جو باول کو انھائے پھرتی ہیں۔ پھر ہم اس باول کو ایک مرے ہمتوئے شہر (خطہ ارض) کی طرف ہمکتے ہیں اور اس کے ذریعہ زمین کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح (تمام انسانوں کو) دوبارہ اُنھیاں جائے گا۔ (فاطر: ۹)

مثال کا تعلق چونکہ علم و عقل سے ہوتا ہے، اس لئے مثالوں کو سمجھنے کے لئے عقل کا گھبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حسب ذیل آیت میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَا إِلَّا الْعَالَمُونَ : یہ

مثالیں جن کو ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں، ان کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ (تکبیت: ۴۳)

قیاس فاسد تمام گمراہیوں کی جڑ

یہ قیاس و اجتہاد کے باسے میں ایک سرسری جائزہ تھا۔ مگر اس موقع پر یہ حقیقت بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لئے کئی شرائط ہیں، جن کو لمخواڑ رکھنا ضروری ہے۔ درجنہ قیاس باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قیاس کی دو قسمیں ہیں: ایک قیاس صحیح اور دوسرے قیاس فاسد۔ اور ان دونوں کی تعریف حسب ذیل ہے:

- ۱۔ قیاس صحیح یہ ہے کہ دو ہم مثل چیزوں کو کیجا کیا جائے۔ جیسا کہ کچھی صفات کے مطابق "نشہ" کی بنیاد پر پائی جانے والی مختلف چیزوں پر یہ حکم لگایا گیا کہ وہ "حرام" ہیں۔ کیونکہ ان تمام چیزوں میں نشہ کی مشترکہ علت موجود ہونے کے باعث وہ سب "ہم مثل" یعنی ایک ہی درجے میں ہیں۔
- ۲۔ اور قیاس فاسد و مختلف (علتوں والی) چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے۔^{۱۹}

یعنی ایسی دو چیزوں میں علت (REASON) مشترک نہیں ہے۔ لہذا ایسی دو مختلف چیزوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ شرب ہی ایک "مشروب" ہے اور دودھ بھی ایک "مشروب" (پیسے والی چیز) ہے، لہذا ان دونوں کو حلال یا ان دونوں کو حرام ہونا چاہئے۔ تو یہ ایک غلط قیاس ہو گا۔ کیونکہ شراب کی حرمت اُس کی "مشروبات" کے باعث نہیں بلکہ اُس کے نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، جو دودھ میں موجود نہیں ہے۔ لہذا دونوں میں "علت" مشترک نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ دو جاہلیت میں مشکین عرب نے اسی قسم کے غلط قیاس کی بنا پر مسودہ کو بھی تسبیح (تجارت) پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کیا تھا کہ جس طرح تمدنیں

”بڑھو تری“ پائی جاتی ہے اسی طرح سود میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ لہذا ان دونوں کا محکم ایک ہونا چاہئے:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا : أُنْهُوْ نَعْمَلُ كَمَا كَبِرَ بَيْعٌ بَحْتِيْ تو سُوكِدِيْ کے

مانند ہے۔ (بقرہ: ۲۴۵)

فرض این قیم فرماتے ہیں کہ ”قیاس عدلِ الہی“ ہے، جس کے ساتھ اُس نے اپنے بنی کو بھیجا ہے۔ چنانچہ فُذ کی شریعت (ہمیشہ) قیاس صلح کے مطابق ہوتی ہے اور وہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اور قیاس صلح کی شرط یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اُس کی محنت کا حال معلوم کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم میں مخالف قیاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ دراصل ایسا قیاس ہے جو خدا اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، جب کہ وہ حقیقتاً قیاس صلح کے مخالف نہیں ہے۔ اور جب کبھی یہ کو ایسا آگان ہونے لگتا ہے کہ کوئی ”نص“ خلاف قیاس وارد ہوئی ہے، تو وہ دراصل قیاس فاسد کی قبیل سے ہوگی۔ لہذا شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قیاس صلح کے مخالف ہو۔ ہاں البتہ وہ قیاس فاسد کی مخالف ہو سکتی ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کے خلافتے لاعلم ہوں یہ:

پھر موصوف دوسرا بجھے فرماتے ہیں کہ ”قیاس فاسد کا شریعت میں ہمیشہ ابطال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سود کو تجارت پر قیاس کرنے، مردار کو ذرع کئے ہوئے جانور پر قیاس کرنے اور اسی طرح حضرت علیہ السلام کو بتوں پر قیاس کرنے کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت علیہ السلام کو اپنا مقبول بنہو اور رسول قرار دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو اپنے معبود قرار دئے جانے سے منع کیا تھا۔ لہذا اس بنابر آپ عزابِ الہی کے مستحق نہیں بن سکتے۔ مخالف مشرکین کے بتوں کے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں امور قیاس ایک درجے میں نہیں ہیں^{۱۷}“

موصوف اس سلسلے میں مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اس قسم کا قیاس کرنے والا سب سے

پہلا فرد ابليس تھا۔ اور آفتاب و ماہتاب کی عبادت بھی اسی قسم کے فاسد قیاس کی بنابر کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے ادیان و مذاہب میں جو بھی بدعتیں اور فساد پرور اُمور نے جگہ پائی ہے وہ سب قیاس فاسد ہی پڑھنی ہیں۔ نیز اسی طرح خود اسلام میں جو گمراہ فرقے انحرافات کا شکار ہوئے، مثلاً فرقہ جہنمیہ نے اللہ کی صفات، اُس کی علیحدگی، اُس کا عرش، پستوی ہونا، اُس کا پس بن دو رہے کلام کرنا اور آخرت میں اُس کی رویت ثابت ہونا وغیرہ اُمور کا جو انکار کیا وہ سب اسی قیاس فاسد کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح ذوق قدریہ نے اللہ تعالیٰ کی عموی قدرت و مشیت کا انکار بھی اسی قیاس فاسد کی بنابر کیا ہے۔ رافضیوں کی گمراہی بھی اسی قیاس فاسد کی بنیاد پر ہے جس کے باعث وہ اللہ کے محظوظ بندوں کے دشمن ہیں اور صحابہ کرام کی تکفیر کرتے اور انہیں بُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مُلکہ اور تہذیب

بھی مُردوں کے دوبارہ حی اُٹھتے، آسماؤں کے پہنچنے اور دُنیا کے اختتام کا انکار بھی اسی قیاس فاسد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس طرح جمیع اعتبار سے دُنیا میں جو بھی فساد برپا ہو رہا ہے اور جو غرائبیاں رُونما ہو رہی ہیں وہ سب کی سب قیاس فاسد ہی کی بنابر ہیں۔^{۳۷}

قیاس فاسد اور مخالف شریعت تحریکیں

یہ ایک نکرانگیز بیان ہے جو حقائق و معارف سے بھر پور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قیاس صحیح اور قیاس فاسد کی اس سے زیادہ جامع اور مفصل تعریف شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اس فکر انگیز بیان سے یہ حقیقت بھی پوری طرح کھل کر ساتھ آجائی ہے کہ آج اسلامی شریعت کے خلاف جو سازشیں اور شورشیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں خواہ خواہ قسم کا جو "اویلا" غالوفین اسلام کے علاوہ خود بعض منافقین اہمت کی طرف سے برپا کیا جا رہا ہے وہ سب اسی قسم کے "قیاس فاسد" کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ مُنالاطیوں کے ذریعہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر کے اسلامی شریعت پر شخون مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی چور دروازوں کے ذریعہ خدا کی عطا کر دہ چیزوں کو حرام اور اُس کی حرام وہ چیزوں

^{۳۷} لہ دو رو قیم میں یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ تھا کہ "آسمان" نہ تو پھٹ کتا ہے اور نہ پہنچنے کے بعد دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔

کو حلال کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے صاف صاف فرمادیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبَابَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ : لے ایمان والو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں۔ اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔

(ماہہ : ۸۶)

اسلامی شریعت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اسی طبق اس کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اس قسم کا اختیار تو خود رسول کو بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک دائمہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی بیویوں کی خبر گیری کے لئے ہر ایک کے ہمراں تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حفصہؓ کے ہاں آپ بیرون سے زیادہ وقت ٹھہر گئے اور وہاں پر آپ نے شہدت ناول فرمایا۔ اس پر مجھے رشک آیا تو میں نے حضرت سودہ بنتِ زمعہؓ سے کہا کہ حضور ہم میں سے جس کے پاس بھی آؤں وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر (ایک قسم کا ہر بودا و گزند) تناول فرمایا ہے۔ قصہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بد بودار چیزوں سے طبعاً سخت کراہت تھی اس لئے آپ نے قسم کھالی کر دیں پھر کبھی شہدت نکھاؤں گا۔ اس پر حسپ ذیل آئیت کریمہ نازل ہوئی :

يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِذْ مَسَخْرُمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ تَبْتَغُنَّ مَرْضَاتٍ أَذْوَاجَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ : لے بنی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشودی چاہتے ہیں۔ اللہ بخت: اور حرم کرنے والا ہے۔ (تحريم : ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت کا اصل شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ خدا کے نازل کردہ کلام (یا اس کے دین و شریعت) میں تبدیلی کا مجھے مطلقاً اختیار نہیں ہے :

اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان ہیں

فَلَمَّا يَكُونُ فِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَفْسِيْ؟ إِنَّ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَى
إِلَيْهِ: كَمْ دَوْكَرْ بِرِّا كَامْ نَهْيَنْ بِهِ كَمْ مِنْ اسْ اپْنِي طَرْفَ سَبْدَلْ دُونْ. مِنْ تَرْصِفْ اسِی بَاتِ کِی
پِیروْیِ کِرْنَا هُوْلْ جَوْمِرْسَے پَاسْ بَذْرِیْعَه وَهِیْ بَجِیْ جَاتِیْ ہے۔ (یون: ۱۵)

مگر اب بِخَالِفِنِ اسلام اور ان کے حامی بعض "مسلمان" خدا کی شریعت کو بدلت کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور ان پر جاہلیت کے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لئے کبھی تو وہ جور دروازوں کی تلاش کرتے ہیں اور کبھی "یکسان سول کوڑ" کاغذہ بلند کرتے ہیں۔ اور ان کے استدلال کی بنیاد پر
"قیاسِ فاسد" ہے۔ چنانچہ آج خدا کے شریعہ کردہ قانون طلاق اور تعدد ازدواج وغیرہ پر روک لگانے کے سلسلے میں جو بھی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں ان سب کی بنیاد اسی "قیاسِ فاسد" پر ہے۔
چنانچہ قیاسِ فاسد یا مناطقوں کا سہارا لئے کر جتن کو ناخن اور ناخن کو جتن ثابت کرنے کا کار و بار آج پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔

قیاسِ فاسد کا باñی الیس ہے

اس سلسلے میں علامہ ابن قیم "تعریر فرماتے ہیں": "ذینا کا سب سے پہلا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نازفانی قیاسِ فاسد کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی قیاسِ فاسد حضرت آدم اور آپ کی اولاد میں بھی اس قیاس کے مرکتب (الیس) کے ذریعہ داخل ہو گیا۔ لہذا ذینا اور آخرت کے تمام شر و فساد کی اصل یہی قیاسِ فاسد ہے" ۲۲

چنانچہ الیس پہلے تو قیاسِ فاسد کے ذریعہ خود لعنی اور مردود قرار پایا۔ پھر اس نے اسی قیاسِ فاسد کے ذریعہ حضرت آدم کو بھی بہر کا گرفت سے بکلوادیا۔ اور حضرت آدم دھوانے اسی قیاسِ فاسد کے ذریعہ اس چالاک ڈمن کے فریب میں اگر شجیرِ منور کو جکھ لیا، جس کے باعث دونوں پر عتاب الہی نازل ہوا۔ اس فریب ہی کی تفصیل قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِيَبْرِدَ لَهُمَا مَا أُوْرَى عَنْهُمَا مِنْ سَفَلَاتِهَا وَقَالَ

مَاتَنَهُكَارٌ بِحُكْمِ أَعْنَ هُدْيٍ وَالشَّجَرٌ قَوْلًا أَنْ تَكُونَنَا مَلَكِينَ أَوْ تَكُونَنَا مِنَ الْخَلِيلِينَ: پھر شیطان نے ان دونوں کو ہر کیا یا تاکہ ان کی شرگا ہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے اور کہا کہ تمہیں تمہائے رب نے اس درخت (کے کھانے) سے حفظ اس لئے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ (اوراف: ۲۰)

اس طرح آج بھی دُنیا میں شیطان جس کی کوہنکانا چاہتا ہے اُسے قیاس فاسد کی پٹی پڑھا کر اپنے جال میں پوری طرح پھانس لیتا ہے۔ اور دُنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو کچنی چیزیں باڑی اور عمالطوں کے ذریعہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا چونکہ شیطان سے ہوئی ہے اس لئے اس قسم کی فریب دہی ایک "شیطانی حرکت" ہے۔ خلاصہ بحث یہ کہ "قیاس صحیح" ایک خداوندی تحریک ہے جو صحیح عقلی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کے برعکس "قیاس فاسد" ایک شیطانی تحریک ہے جو غلط بنیادوں اور دھوکہ و فریب پر قائم ہے۔

شریعت اور فقہ کا فرق

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ دین میں قیاس و اجتہاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جس طرح کہ قیاس صحیح اور قیاس فاسد کی حقیقت بھی پوری طرح روشنی میں آگئی۔ نیز اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ دین و شریعت ایسے جامد قسم کے احکام کا محدود نہیں ہیں جن میں غور و فکر کرنا منسوخ ہو یا عقل و فکر کا اس میں کوئی دخل ہی نہ ہو۔ یہ تصور دیگر مذہب کے باب میں تو صحیح ہو سکتا ہے مگر اسلامی شریعت کے باب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہاں تو نہ قدم پر غور و فکر اور عقل و قیاس پر ابھارا ہے اور اس کی تحسین کی جا رہی ہے۔ تاکہ نہ اسلامی ایک جامد چیز بن کر نہ رہ جائے، بلکہ دلیل و استدلال کا بازار ہمیشہ گرم رہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں شرعی احکام کے بیان کے بعد جگد جگد اس قسم کی بدلایات بھی ملتی ہیں :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : اسی طرح اللہ تعالیٰ کے

لئے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ (نور: ۶۱)

اور جب کبھی احکام شرعی ہیں غور و فکر کیا جائے مکتوں اور مصلحتوں کا ایک نیا باب ہمارے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں کہ قیاس صحیح کے اعتبار سے "شریعت درجہ کمال پر نظر آتی ہے، کیونکہ وہ عدل، مصلحت اور حکمت پر مشتمل ہے۔"

گر اس موقع پر اصل شریعت اور فقہ کا فرق بھی اپنی طرح سمجھ لینا جائے تاکہ اس باب میں کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ فہمائے کرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور ان سے نئے مسائل کا استنباط کرنے میں اگرچہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی بلکہ ایک انسان کے امکان میں جتنا کچھ ہو سکتا تھا اتنی تمام و کوشش اہم ہوئی نہیں۔ اہم ہوئی نہیں کیونکہ اس کے نتیجے مفہوم اور محتوى کے درجہ کا ایسا عظیم الشان ذخیرہ قانون تیار کر دیا جس کی نظری انسانی قانون اور دستوری تائیخ میں نہیں ملتی۔ یہ ذخیرہ قانون اہم ہوئی نے اپنے دور کی ضروریات کو سیش نظر کھتے ہوئے تیار کیا تھا، جو قرآن اور حدیث کی روح کے عین مطابق تھا۔ گر اس کے باوجود اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہئے کہ ان میں سے بعض مسائل موجودہ دور کے مزاج اور ضروریات کے لحاظ سے ناکافی اور بعض غیر ضروری ہیں۔ اسی طرح ان کی بعض رایوں سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش بھی موجود ہے۔ گرفہمائے کرام پر کسی قسم کی خود غرضی یا نفسانیت کا الزام عاید نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اہم ہوں نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔

اس اعتبار سے شریعت اور فقہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز (شریعت) اپنی جگہ پر بالکل کمل اور بے نقص ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب کہ دوسری چیز (فقہ) میں نظر ثانی اور ترمیم کی گنجائش موجود ہے۔ گرہم فقہ اسلامی سے کسی بھی حال میں مستغنى نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جن اصولوں کو کام میں لا کر فہماء و مجتهدین نے شریعت اللہی کو نکالا اور اس کے افہام و تفہیم کے لئے چند رہنماؤصول و ضوابط وضع کر کے قانون شریعت کے نوک پلاک درست کئے، اُسی نئی پرچل کریم موجودہ دور میں قیاس و اجتہاد کر سکتے ہیں اور انہی اصولوں کی روشنی میں

نئے نئے مسائل کا حل دریافت کر کے عصرِ جدید کے چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں۔

گواہ سلسلے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی بھی دور میں جب کوئی نیا مشکلہ یا نیا قضیہ پیش آئے تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزوں شریعت کا اصل مأخذ ہیں اور ان سے کوئی بھی دور کسی بھی حال میں مستغنی نہیں ہو سکتا، جلال نفق کے، جو اصل نہیں بلکہ فرع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی مشکلات کا حل اصل میں توں مکتاہے گر فرع میں ملا مشکل اور بٹکل ہے۔ اور اس سلسلے میں عام طور پر ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ اسلامی میں تمام مسائل کا احاطہ کریا گیا ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کو اچھی طرح "پنور" لیا گیا ہے۔ لہذا اب ہر مشکلے کا حل بجاۓ قرآن اور حدیث کے فقہ میں ڈھونڈنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی غلط بلکہ اٹھا موقف ہے۔ فتحاء اور محتجہ دین اگرچہ کتنے ہی زیادہ قین الظر اور کتابت رسکیوں نہ ہوں، وہ مستقبل کے تمام مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہر دور کے احوال کو اُنہوں اور قرآن کے تفاصی مخالف ہوتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں ایسے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا قدم دور میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔

اسی طرح ایک عمومی غلطی یہ بھی ہے کہ مختلف فہمی مسلکوں کے پیر و اپنے اپنے مسلک پر اتنی سمجھی کے مطابق کار بند ہوتے ہیں کہ وہ اسے ہمیشہ کے لئے حرف آخر یا طے شدہ مسائل سمجھتے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کی ترجیح کے لئے بالکل تیار نہیں ہوتے، خواہ انہیں بعض صورتوں میں اپنے مسلک کی گزروی ہی کیوں نہ کھانی دے رہی ہو۔ اور ایسی تمام صورتوں میں وہ بجاۓ اپنے مسلک میں تاویل یا اصلاح کرنے کے قرآن اور حدیث میں تاویل کرنے لگ جاتے ہیں جو اصولاً ایک غلط موقف ہے، خصوصاً بعض جدید مسائل کے تعلق سے، جب کہ کچھلے اور میں ان کے باکے میں معلومات ناکافی تھیں۔ مگر یہ کوئی عوای مسئلہ نہیں بلکہ علماء کا مشکلہ ہے۔

غرض ایسی تمام صورتوں میں قرآن اور حدیث کو مقام رکھتے ہوئے فقہ کو ان کے تابع قرار دینا چاہئے، ورنہ اُبھی ہوئی ڈور کا سراہا تھا نہیں آسکتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن

اور حدیث میں توہینیں ہر دور کی مشکلات کا حل سکتا ہے مگر فقہ میں ایسا ہونا مشکل ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں فقہ میں دوبارہ غور و فکر کرتے ہوئے اس کے نوک پہک سخا رازنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اصل شریعت (قرآن اور حدیث) میں تو کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ (بلکہ اس کے نئے نئے مکات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس اعتبار سے اُس کی حیثیت ایک سدا بہار درخت یا ایک روایا کی سی ہے) جب کہ فقہ میں ترمیم و اضافہ ممکن ہے۔

نیز اس موقع پر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمُت کو جن دو چیزوں کو نصیبوطی کے ساتھ تھا۔ رہنے کی ہدایت فدائی تھی وہ قرآن اور حدیث ہی ہیں اور ان میں علماء کے اقوال و آراء شامل نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے :

تَرَكْتُ فِيمَا أَمْرَيْتُ لَنْ تَضْلُّوا مَا مَسْكُنْتُمْ بِهَا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّنِيْجُو : کیس نے تم میں دو چیزیں پھوڑ دی ہیں، جب تک تم انہیں تھلمے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے
ایک کتاب اللہ اور دوسری اُس کے نبی کی مستحبت ہے

لہذا قرآن اور حدیث اصل ہوئے اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ ان دونوں کے تابع ہے۔ مگر جو لوگ اس کے برعکس اپنے علماء اور مجتہدین کے اقوال و آراء کو ہر حال اور ہر صورت میں اصل قرار دے کر قرآن اور حدیث کو ان کے تابع قرار دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت کی اصل اور اُس کے غشائے بالکل خلاف ہے۔ شریعت یہی کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے ابدی علم کا مظہر ہے۔ جب کہ اس کے برعکس ایک مجتہد پے ناقص علم و تجربہ کی بنیاد پر غلطی کر سکتا ہے۔

فہری اختلافات کی حقیقت

اس موقع پر فہری اختلافات پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈال لینا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء کے درمیان اختلاف ایک واقعہ ہے، جس کی بنیاد پر ایک فقہ دوسری سے ممتاز نظر آتی ہے۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے فقہ اسلامی میں بہت سے مکاتب فکر (SCHOOLS OF THOUGHT)

ٹھوڑی پر ہوئے، جن میں چار بہت زیادہ مشہور و مقبول ہیں۔ میری مراد فقرہ حنفی، فقرہ شافعی، فقرہ مالکی اور فقرہ حنبلی سے ہے۔

ان مختلف مسلکوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ دلیل و استدلال کی بنیاد پر اصولی اختلاف ہے۔ اور ہر کرتپ فکر اس سلسلے میں لپٹنے اپنے مسلک کی تائید میں قرآن اور حدیث کے دلائل رکھتا ہے۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے کہ دلائل و برائین کی روشنی میں اور اچھی طرح جانچ پڑتاں کرنے کے بعد جس مسلک کو چاہے اختیار کرے، اگرچہ ان مسلکوں میں ترمیم و اضافة ممکن ہے، خواہ اس حقیقت کو متعلقہ مسلک والے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ مگر صدیوں کی تقلید کے باعث اب یہ ایک مشکل امر ہو گیا ہے۔

بہر حال اس موقع پر ایک غیر جانبدار شخص کے ذہن میں چند بنیادی سوالات پیدا ہوتے

ہیں جو یہ ہیں :

۱۔ اس قسم کا اختلاف آخر پیدا ہی کیوں ہوا؟ کیا تمام لوگ کسی ایک ہی مسلک پر متفق نہیں ہو سکتے تھے؟

۲۔ اب جب کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو کیا یہ سب مختلف و متفاہ مسلکوں بینی ہیں؟

۳۔ پھر کیا ان سب کو کسی ایک ہی مسلک پر متفق و متحدا نہیں کیا جاسکتا؟

تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف دراصل ”نصوص شریعت“ کے فہریں تفاوت کا شیجہ ہے، جو دین میں بجا ہے خود مطلوب نظر آتا ہے۔ لہذا ان فہری اختلافات کے ٹھوڑوں میں بہت بڑی جگہ کار فرمانٹ آتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فکر و نظر کو چلا لتی ہے، اسرارِ شریعت و اہمیت ہیں اور سب سے بڑا کر جمود فکری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بالغاظ دیگر اب اس اختلاف کے ذریعہ فکری قوتیں کو تیز کرنا اور دلیل و استدلال کا بازار گرم رکھنا مقصود ہے، تاکہ وہ نئے مسائل کی تدوین کی راہ میں معاون بن سکے۔ اور یہ چیز ایک دائمی شریعت کے لئے بہت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

دوسرا سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب ہی میں موجود ہے کہ اس اختلاف کی وجہ اس شرع خریفیں روزاً دل ہی سے رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ فہمائے کرام کے دلائل کے تفصیل مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ فقہاء نے جتنے بھی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے وہ سب کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی واضح رہے کہ یہ اختلاف دین کی اساسیات میں نہیں بلکہ فروعی مسائل میں ہے۔ اونچنی کے چند مسائل کو چھوڑ کر (جہاں پر چاہڑا اور ناجائز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے) اکثر مسائل وہ ہیں جہاں پر مسلمہ صرف فضیلت یا عدم فضیلت کا رہ جاتا ہے۔ مثلاً نماز میں ہاتھ سے پر باندھا جائے یا ناف کے نیچے؟ امام کے پچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آئین زور سے کہا جائے یا آہستہ؟ اس قسم کے ظاہری، اور فروعی اختلافات شریعت میں مذموم نہیں بلکہ محمود ہیں۔ کیونکہ ان میں یہ پعن معاملہ وہ ہیں جن کی وجہ سے امت کے مختلف طبقات میں آسانی پیدا کرنا مقصد ہے۔ لہذا اس قسم کے ظاہری اور فروعی اختلافات میں شدت پیدا کر کے باہم دست بگریاں ہونا یا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا قلع چاہڑ نہیں ہے۔ بلکہ اس قسم کی حرکت شریعت الہی اور اُس کی اصلیت سے ناواقفیت کی ہیلے ہے۔

اب رہائی سے سوال کا جواب تو یہ علاًماً ممکن نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایک مسلم مذہبی کے تمام مسلمانوں پر جبراً نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے باعث نئے نئے جھگڑے پیدا ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہو سکیں گے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ جس ملک اور جس علاقے میں جو جو مسلمانوں ہیں انہیں جوں کا تو اور قرار کھا جائے۔ اور پھر اس کی وجہ سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہو گی کہ گند ذہنی یعنی جمود کو بڑھا دالے گا اور فکر و نظر کے سوت خشک ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وہ حکمت علی ہے جو دین و شریعت میں روزاً دل ہی سے ملحوظ رکھی گئی ہے۔

ان تمام اعتبارات سے ایک دائمی شریعت میں اس قسم کے فروعی اختلافات کا موجود رہنا ہمایت ضروری ہے۔ لہذا اختلاف مسلمانوں کی بنابر کسی قسم کی عصیت پیدا کرنا اور امت اسلامیہ کے اتحاد میں رخنہ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ فقہی اختلافات، جو ظاہر ہیں کو ایک اچھی خاصی بھول بھلیاں دکھائی دیتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ امت کے لئے

باعثِ رحمت اور باغثِ آسانی ہیں بلکہ ان میں درحقیقت مستقبل کے قیاس و اجتہاد کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ لہذا نئے دور کا مجتہد جب اجتہاد کرنے پڑتے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک مسلمان پر تکمیل کرنے کے بجائے پوری فقہ اسلامی کو سامنے رکھے۔ ورنہ شریعت کی اصل حقیقت و اہمیت سے ناواقفیت کے باعث سرسرشہ حیات اُس کے باقاعدے نہیں مل جائے گا۔

نیز اس سلسلے میں ایک معقول تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری اسلامی فقہ پر تکمیلت
مجموعی نئے صرے سے غور و خوض کر کے دلائل کی قوت کی بناء پر ایک نئی فقہ مذوقن کی جائے اور اس کو ایک اختیاری چیز کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاکہ کوئی بھی شخص بغیر کسی جبر و اکراہ کے اس کو اختیار کر سکے۔ مگر اس کام کے لئے فقہ اور اصول فقہ میں اعلیٰ درجے کی بصیرت رکھنے والے غیر متعصب علماء کی ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کام کو کوئی فرد واحد انجام نہیں دے سکتا۔ اور کسی فرد واحد کے ذریعہ انجام پائے ہوئے کام کی کوئی اہمیت ہتھی ہو سکتی ہے۔

فقہی اختلاف کے اسباب

بہر حال فقہائے کرام کے اختلافات اور ان کے اسباب کو علمی طور پر صحیح کے لئے سب سے بہترین اور فکر انگریز کتاب علامہ ابن رشد قرطی (متوفی ۵۹۵ھ) کی "بدالیۃ المجتهد" ہے، جس میں فقہاء کے اختلافی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے اسباب و وجوہات پر فلسفیانہ مگر سلب ہوئے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک مختصر سی فقہی انسائیکلو پیڈیا کا درجہ درکھنی ہے جو دریا یا کوزہ کا مصدقہ ہے۔ اس کے ذریعہ کم سے کم الفاظ میں فقہ اسلامی کے اسرار و رسموں پوری طرح اپناؤ گر ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی پچیس گی باقی نہیں رہتی۔

اس سلسلے کی ایک اور معکرۃ الاراء اور گرانقدر تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی⁷ (متوفی ۱۱۴۶ھ) کی "حجۃ اللہ البالغة" ہے، جو فلسفة شریعت میں بے نظیر سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ موصوف نے اس میں فقہی اختلافات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے حدیث رسول اور مختلف فقہی مسلکوں کے درمیان تطبیق دیتے ہیں کہی کوشش کی ہے۔ نیز اس بالے میں آپ نے

ایک مستقل رسالہ بھی "الانصاف فی بیان سبب الاختلاف" کے نام سے تحریر کیا ہے جس میں آپ نے تفصیل سے جائزہ لے کر بتایا ہے کہ متعدد تاریخی اسباب کی بنابر خود دو صحابہ میں اس قسم کا اختلاف موجود تھا اور مختلف فہماء کا مسلک کسی نہ کسی صحابی کے قول و عمل پر مبنی ہے۔

موجودہ دور میں "امام محمد بن سعود اسلامیہ یونیورسٹی" ریاض کے والئش چانسلر اکٹر عبدالرشد بن الحسن الترکی نے بھی ایک اچھی کتاب "اسباب اختلاف الفقہاء" کے نام سے تحریر کی ہے، جو اس موضوع پر کافی مفصل ہے۔ اس میںوصوف نے لکھا ہے کہ "شریعت میں جو اختلاف مذکوم ہے وہ وہ اختلاف ہے جو حق بات اُجاتا گرہ ہو جانے کے بعد بھی بعض نفсанی خواہش یا ذاتی تعصب کی بنابر پڑھو رہ پڑی ہو۔ اور یہ بات خُدرا رسیدہ امیر و مجتہدین کے باب میں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ وہ تولدیں کی بنابر اپنے اقوال کو نزک کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے پیر و دوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ثابت ہو جائے تو اسے دیوار پر دے مارو!"^{۱۲}

اجتہاد کی ضرورت اور اس کی شرائط

حاصل کلام یہ کہ اجتہاد عصرِ جدید کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور صاحبِ نظر علماء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اجتہاد کو منزع قرار دیتا ہو۔ بلکہ قدیم و جدید بہت سے اصحابِ فکر اس کی ضرورت و اہمیت کے قائل ہے ہیں۔ اور آج بہت سے جدید حلقوں سے اس کی مانگ کی جا رہی ہے تاکہ آج عالمِ اسلام اور عالمِ انسانی جن جدید علاشرثیٰ تندی فی اور اجتماعی مسائل سے دوچار ہیں اُن کا صحیح حل اسلامی شریعت کی روشنی میں معلوم کیا جائے۔ مگر اجتہاد کے کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے اور اس کام کے لئے عربی زبان اور علوم اسلامیہ میں کمال حاصل کرنا گزیر ہے۔ کوئی شخص بعض ترجیحوں کے ذریعہ نہ ترقی آن اور حدیث کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ منصب اجتہاد پر فائز ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ آج ہندستان کے اکثر "دانشور" محض ترجیحوں کی مرد سے "اجتہاد" کی کرسی پر براجان

^{۱۲} اسباب اصلاح الفقہاء ڈاکٹر عبدالرشد بن الحسن الترکی، ص ۳۵، مطبوعہ ریاض۔

ہو جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ اجتہاد کے نام پر منصوص احکام کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اجتہاد نہیں بلکہ دین کی "تحريف" ہے، جو ایک مذموم حرکت ہے۔

فرض اگر کسی کو صحیح معنی میں اجتہاد کرنا ہے تو وہ بڑے شوق سے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جس طرح باطل کی تشریع کا حق صرف چرچ کے لئے منصوص کر دیا گیا تھا، اس طرح اسلام میں بھی یہ حق کسی منصوص ادارہ کے ساتھ خاص ہو گا۔ بلکہ ہر شخص یہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اپنے میں اس کی الہیت رکھتا ہو۔ اس کام کے لئے محض "پڑھا لکھا" ہٹا کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو محض "چھری چلانا" آتا ہو وہ سر جری کرنے کا دعویٰ بھی کر سکتے! آخر ایسا کون پاگل شخص ہو گا جو سر جری کا علم حاصل کئے بغیر انسانوں کی چیر پھاڑ کو جائز

قرار دے دے؟

اگر اجتہاد کی کرسی پر فائز ہونا ہے تو سب سے پہلے قرآن، حدیث اور فقہ اسلامی کا صحیح علم (مع ائمہ کرام کے دلائل کے) حاصل کرنا اور "اصول فقہ" میں بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے، جس میں اسلامی شریعت کے چار بنیادی مأخذوں (قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس) کے اصول و مبادی سے بحث کر کے ان کے بाहی روابط اور ان کے محدود کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی شخص مجہنبد بن سکتا اور غیر مذکور مسائل کا حکم مذکور شدہ احکام کی روشنی میں تلاش کر سکتا ہے۔

اس قسم کے اجتہاد کی ضرورت کے علماء ہر دور میں قائل ہیں۔ چنانچہ امام البند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی "تحیر فرماتے ہیں: اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ اور یہاں پر اجتہاد سے مراد ویسا "مستقل اجتہاد" نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی (وغیرہ) کا تھا۔ بلکہ مقصود "استثنائی اجتہاد" ہے، جو شرعی احکام کے تفصیلی دلائل کو جاننے اور بحث دین کے طریقے پر مسائل کا اخراج کرنے کا نام ہے۔^{۱۱۹}

اُستاذ عبدالواہب خلاف مصری "اجتہاد بالرائے" کی تعریف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ "اس سے مزادغور و فکر اور شریعت کے بدایت کردہ وسائل کے ذریعہ کسی ایسے واقعہ کے محکم تک پہنچ کرنا ہے جس کے بالے میں شریعت خاموش ہو۔"^{۱۹}

اجتہاد کے موضوع پر جدید کتابوں میں ڈاکٹر یوسف قضاوی کی "الاجتہاد فی الشریعة الاسلامیة" ایک اچھی اور مفید کتاب ہے، جس میں موصوف نے اجتہاد کے لئے آنکھ شرطیں ضروری قرار دی ہیں جو یہ ہیں : (۱) قرآن کا عالم (۲) حدیث شریف کا عالم (۳) عربی زبان کا عالم (۴) اجماع کا عالم (۵) اصول فقہ کا عالم (۶) مقاصد شریعت کا عالم (۷) انسان (۸) اور معاملوں سے واقفیت (۹) اور مجتہد کا عادل مفتقی ہونا۔^{۲۰}

نیز موصوف اجتہاد کی ضرورت و اہمیت پر زور دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ "اگرچہ ہماری فقہی میراث کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، تاہم یہ کہنا مبالغہ ہو گا کہ قدیم فقہ میں ہر نئے مسئلے کا جواب موجود ہے۔ ہر زمانے کی ضروریات و مشکلات الگ الگ ہوتی ہیں اور ہر دور میں ایسے نئے نئے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں جن کا سابقہ ادوار میں کوئی تصویب ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جب کچھلے ادوار میں ان کا تصور ہی نہ رہا ہو (مثلاً انشورنس اور اسلامی اعضاوں کی پیوند کاری وغیرہ) تو ان پر کچھلے لگایا جاسکتا ہے؟ اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قدیم واقعہ پر لیے احوال و اوصاف طاری ہو جائیں جس کی بنابری و اتفاقات کی طبیعت اور تاثیری بدل جائے، جس کے باعث وہ قدیم فتاویٰ کے مطابق نہ رہ جائیں؟"^{۲۱}

نیز وہ مزید تحریر کرتے ہیں : "یہ وہ صورت حال ہے جس کی بنابر خود محققین فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ، جگہ، عرف اور حالت کی تبدیلی سے فتویٰ میں تبدیل ضروری

^{۱۹} مصادر الشريعة الإسلامية، ص ۱، مطبوعہ کویت۔

^{۲۰} الاجتہاد فی الشریعة الاسلامیة، ڈاکٹر یوسف قضاوی، ص ۱۱ - ۱۲

لکھ اپنا، من ۱۰۱ (خلامصہ) مطبوعہ دار الفکر کویت، ۱۴۰۶ھ

ہو جاتی ہے۔ لہذا جیسے جیسے زندگی کے حالات میں جدت اور معاشرے کے حالات میں تبدیلی ہوتی جائے گی۔ اور جب تک اسلامی شریعت ہر دور اور ہر خط کے لئے موزوں رہے گی، اجتہاد بھی ایک دائمی ضرورت کی حیثیت سے باقی رہے گا۔ اور خاص کر ہمارے دور کو دیگر ادا کی نسبت اجتہاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ آج صنعتی انقلاب کے بعد اجتماعی امور و مسائل میں نہایت درجہ بردست تبدیلیاں آگئی ہیں۔ اور آج پوری دنیا سمٹ کر ایک چھوٹے سے شہر کے مانند بن گئی ہے۔^{۳۲}

اجتہاد کے نئے آفاق

ڈاکٹر یوسف قضاوی نے اجتہاد کے بعض نئے نئے میدانوں کا بھی تعارف کرایا ہے جن کا قدیم دور میں کوئی تصور نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اس باب میں خاص کر بعض اقتصادی و مالی اور طبقی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی آج بڑی اہمیت ہے۔ مثلاً لائف انفورنس، اشیاء و جایزادہ کا انشور فس اور بینکاری (BANKING) کے مختلف مسائل وغیرہ^{۳۳} اسی طرح وہ تحریر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں جدید مسائل اور لکھا لوچی طبی میدان ہیں ایسے ایسے کارناتے انجام دے رہے ہیں جو دور قدیم میں خارق عادت چیزیں یا مجرمات تصور کئے جاتے تھے۔ مثلاً انسانی اعضاء کی پیوند کاری، دل گردوں کی تبدیلی، ایک شخص کا غون دوسرے کے جسم میں پہنچانا وغیرہ۔ ان پچیدہ مسائل کا حل شرعی حیثیت سے کیا ہے؟ آیا شریعت کی نظر میں یہ اور اس قسم کے افعال ایک انسان کی جان بچانے کے لئے جائز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان سب کا تشفی بخش جواب ”نصوبہ شریعت“ کی روشنی میں ایک مجہتد کو دینا ضروری ہے۔^{۳۴}

نیز اسی طرح ایک مسئلہ ”ٹیسٹ ٹیوب بے بنی“ کا ہے کہ آیا شرعاً یہ فعل جائز ہے یا

۳۲ لئے اپنا، ص ۱۰۱-۱۰۲

۳۳ لئے اپنا، ص ۱۰۳-۱۰۴

۳۴ لئا، ص ۱۰۵-۱۰۶

اسلامی شریعت علم اور عقل کا ہمراں میں

نہیں، اگر جائز ہے تو اس کے حدود کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد نسب اور دراثت وغیرہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام نئے مسائل کا حل اسلام کی دائمی شریعت کی روشنی میں نکالنا بہت ضروری ہے۔

اسی طرح موجودہ دور میں رُدِیت ہلال اور اختلاف مطالع کا مسئلہ امت کے درمیان باعث نزاع بن گواہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ آیا فلکیاتی نقطہ نظر سے رُدِیت ہلال پر استدلال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں اور اگر نہیں تو کیوں؟ کیا اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے دائمی نصوص میں موجودہ دور کے لئے کوئی رہنمائی موجود ہے؟ لہذا اب ہمارے نئے مجتہدین "کو قیم مسائل یا بعض طبق شدہ مسائل پر فرسودہ طریقے سے انحرافات کرنے یا ان میں مفرماں کے بجائے ان جدید مسائل پر اپنی توبہ مبذول کرنی چاہئے۔ اور اس قسم کے مسائل میں اجتہاد سے شاید یہ کسی مسلمان کو انکار ہو سکے۔

واضح ہے کہ آج کل بعض جدید حلقوں میں "اجتہاد" کا جونزوہ بلند کیا جا رہا ہے اُس کی حقیقت یہ ہے کہ دو کسی واقعی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ بعض ہندستانی سیاست داروں کے مطالبے یا دباؤ کے تحت ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلم معاشرے کو درپیش جدید مسائل کی طرف توجہ مبذول کرنے کے بجائے یہ لوگ صرف انہی دو گھسے پٹے مسائل میں اجتہاد کرنا چاہئے ہیں جن کے بدلتے پر ہندستانی سیاست دار زور دے رہے ہیں۔ یعنی طلاق اور تعدد اور زواج (POLYGAMY) کے مسائل۔ چنانچہ آپ اس سلسلے کے کسی بھی سینارکی پورٹ یا کوئی بھی مقام دیکھ لیجئے جو آج کل ہندستان کے نئے "وکیلوں" کی جانب سے پیش کئے جا رہے ہیں۔ سب کی تا ان ان ہی دو مسائل پر لوثی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں یہی دو مسائل ایسے رہ گئے ہیں جن پر "اجتہاد" کرنے کی ضرورت اب ان "مجتہدین" کو پیش آگئی ہے؟ کیا ان کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جس پر مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو؟

ایک اجتہاد بورڈ کا قیام ضروری

غرض اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، جن کا حل موجودہ دور میں شریعت کی روشنی میں نکان اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ تاکہ امت مسلمہ دور جدید میں اپنی صلاحیت پوری طرح ثابت کر سکے۔ مگر یہ کام کسی فرد واحد کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس سلسلے کی شرائط بہت سخت ہیں۔ لہذا موجودہ دور میں یہ کام بجائے انفرادی طور پر انجام دینے کے اجتماعی طور پر انجام دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں غلطیوں کے وقوع کا امکان بھی کم ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اور آج اکثر علماء کی بھی بھی رائے ہے۔ مثلاً ڈاکٹر یوسف قرضاوی خیر کرتے ہیں:

”ہمارے دور میں اجتہاد کو ایک علیٰ اکیدیٰ کی صورت میں ہونا چاہئے، جو اُن پنچے درجے کے نقیٰ معیار پر مشتمل ہو۔ اور وہ لپے احکام (فتاویٰ) بغیر کسی اجتماعی و سیاسی دباؤ کے پوری آزادی و بے باکی کے ساتھ صادر کر سکے۔ مگر اس کے باوجود انفرادی اجتہاد سے بھی مغز نہیں ہے۔ بلکہ بھی انفرادی اجتہاد اجتماعی اجتہاد کا پیش خیہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ عین مطالعہ اور ربحث کی پیش کرتا ہے۔ بلکہ اجتہاد اپنی اصل تعریف کے اعتبار سے سب سے پہلے ایک انفرادی علیٰ ہوتا ہے“^{۳۵}۔ اسی طرح موصوف نے انفرادی و اجتماعی اجتہاد کے علاقہ اور اس کے تعلق پر بھی بخوبی روشنی ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد موصوف مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اجتہاد آج کے دور میں ہماری نہیں کے لئے ایک اسلامی ضرورت اور ہمارے موجودہ تمام (تمدنی و اجتماعی) مشکلات کا (واحد) علاج ہے۔ ورنہ ہم پر جمود و احتکاط طاری ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ جمود اور بے حرکتی نہ تو افلکَ الی حرکت کو روک سکتی ہے اور نہ زمین کی گردش کو“^{۳۶}۔

غرض ان تمام اعتبارات سے ایک ”اجتہاد بورڈ“ یا ”فقہ اکیدی“ کا قیام موجودہ

^{۳۵} الاجتہاد فی الشریعة الاسلامیة ، ص ۱۰۷

^{۳۶} مرجع سابق ، ص ۱۰۷ - ۱۰۸

اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان ہیں

حالات میں نہایت ضروری ہے۔ لہذا اب ہندستان کے مسلمانوں کو اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہئے، تاکہ ہماری نلت کو درپیش تمام مسائل کا حل اسلام کی دائمی شریعت کی روشنی میں نکالا جاسکے۔

وقت کی پکار

اس اعتبار سے اجتہاد ہر دور میں ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعہ جہاں ایک طرف نئے نئے مسائل کا حل نکالا جاسکے تو دوسری طرف ہر دور کے ذہن و دماغ اور اُس کی عقلیت کے پیش نظر اسلامی شریعت کو مطابق عقل بھی ثابت کیا جاسکے، تاکہ ہر دور میں خدا تعالیٰ قانون کا بول بالا ہو اور نوع انسانی کے ذہنوں میں اُس کی برتری کا سکبیٹھ جائے۔

ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہر دور میں ایسے جتیدا در پختہ کار علما اور اہل بصیرت کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ قانون کی حکومتوں اور صلحیتوں کو سمجھتے ہوئے یہ دونوں خدمتیں بخوبی ادا کر سکیں۔ یعنی وہ ایک طرف نئے نئے معاشرتی، اجتماعی اور تمدنی مسائل و مشکلات کا حل دین ابدی کے اصول و مبادی میں تلاش بھی کرتے رہیں، تو دوسری طرف خدا تعالیٰ قانون کو مطابق عقل ثابت کر کے اسلامی ضابطہ حیات کا بول بالا بھی کر سکیں، تاکہ مخالفین تحریکوں اور فتنوں کا مقابلہ اور اسلامی شریعت کا دفاع بھی پوری طرح ہوتا رہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ائمۃ تعالیٰ نے انسان کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اُن کی عقلی حکومتوں اور صلحیتوں سے دنیا کے علوم بھرے ہوئے ہیں اور تحقیقاتِ جدیدہ کی روشنی میں یہ حقائق روز بروز نکھر کر ہمارے سامنے آرہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اُن کی مضرتیں بھی جدید علوم کی روشنی میں پوری طرح کھل کر سامنے آرہی ہیں۔ مثلاً اسلامی شریعت میں خنزیر کے گشت کو ”رخص“ یعنی گندہ چیز ہونے کی بنابر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جدید طب و سائنس اس کی ”لگندگی“ یعنی اس کی مضرت رسانی پر پوری طرح متفق ہے۔ (اور اس موضوع پر راقم سطور کی ایک کتاب زیر تکمیل ہے) اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہمارے علماء جدید علوم و فنون کا مطالعہ کر کے اسلامی

شریعت کی حقانیت کو اُجاگر کریں اور اُس کا روشن و تابناک چہرہ دنیا کو دکھائیں تاکہ دنیا پُوری طرح باور کر لے کر اسلامی شریعت اور اُس کے قوانین غیر مقول چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ علم و عقل کی میزان اور اس کی ترازوں میں پُوری طرح تسلیت اور ہر لحاظ سے کھرے ثابت ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی شریعت ایک خُدائی مجھہ ہے جس کی تابناکی سے بخوبیں خیر ہو سکتی ہے۔

آج اُمتِ مسلمہ پر رہوں صدی بھری میں داخل ہو چکی ہے اور اکیسویں صدی ٹیکسوی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس طرح وہ ایک نئے دور کی نقیب ہے جس کا مقابلہ اب عقليت پسندی یا رشتنسٹوں سے ہے۔ لہذا اب اُسے اپنے دور کی عقليت و منطقیت کے مطابق اپنے دین اور احکام دین کی مقولیت سمجھانی ہے۔ اس اعتبار سے اب محض روایاتی طریقے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ آج نوع انسانی کو اپنے جن علم و فنون پر ناز ہے، انہی علم و فنون کی روشنی میں اسلامی شریعت کی عظمت و برتری کا اثبات کرنا ہو گا۔ درنہ خود شرعی اعتبار سے بھی اس باب میں اتمم جھٹ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف فرماتا ہے «قُلْ فَلِلّهِ الْجَلِيلُ الْأَعْلَمُ بِالْبِلْغَةِ» (کہم و کہ اللہ تعالیٰ کی جھٹ غالب رہے گی) اور اللہ کی جھٹ کو غالب کرنا اللہ کے فرمانبرداروں کا کام ہے۔ کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کی ہے۔

اس اعتبار سے آج ایک نئے غزالی اور نئے ابن تیمیہ کی ضرورت ہے، تاکہ موجودہ «معاذ الدین عقل پستی» کو علمی میدان میں شکست دے کر اس کا دھارا دین و مذہب کی طرف موڑا جا سکے۔ یہ وقت کی بکار ہے، جس کی طرف اہل اسلام کو اپنی اولین فرست میں توجہ کرنی چاہئے۔ درنہ آئے والا وقت ہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ بلکہ ہم ہندا کے نزدیک بھی جسم اور گنہگار قرار دے دئے جائیں گے۔

راقم سطور نے اس سلسلے میں اپنی بساط کے مطابق چند کتابوں کے لکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ان میں سے بکھر زیر تکمیل ہیں۔ اور وہ انشاء اللہ عنقریب منظیر عام پر آئیں گی۔ اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جن اسلامی قوانین کو سب سے زیادہ نشانہ یا ہدف طامت

بنایا جا رہا ہے انہی موضوعات پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ مثلاً مرد اور سورت کی مکمل مسادات کا دعویٰ وجود ہے تین حیاتیاتی حقائق (BIOLOGICAL FACTS) کے خلاف ہے۔ اسی طرح طلاق اور تعدد ازدواج (POLYGAMY) کے جواز پر آج سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ متعدد دنیا اب آہستہ آہستہ اسلامی قوانین کی حقانیت کو (چھ تو علاوہ اور کچھ نظریاتی طور پر) تسلیم کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ گوئیا کے مختلف قوانین اور ان کی حالیہ تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہی حال دیگر تمام قوانین کا بھی ہے۔ اور وہ وقت انشاء اللہ جلد یا بدیر ضرور اُنے والا ہے جب وہ اسلامی قوانین کی گدیں پناہ لینے پر پوری طرح مجبور ہو جائے۔ وما ذلک

علی اللہ بعزیز۔

۲۰ / ذی الحجه / ۱۴۰۷ھ

پندرہویں صدی ہجری کے نئے مولانا سید ابوالحسن علی نوری ناظر العمال کا ایک خلیفہ تھا
ایک ہیات آفرینی پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(بچو حصوں میں)

حصہ اول : پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک مسلم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا اماری جائزہ، نامور مصلحین اور متاز اصحاب دعوت و عزیمت کا منفصل تعارف، ان کے ملئی کارناویں کی رواداران کے اثرات و تاثریں کا تذکرہ۔

حصہ دوم : جس میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور علم و مصلح شیعہ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی سوانح حیات، ان کے صفات و کلاالت، ان کی ملی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان کی ہم تصنیفات کا منفصل تعارف اور ان کے متاز تلامذہ اور مشتبین کے حالات۔

حصہ سوم : حضرت خواجہ میں الدین چشتی، سلطان الشافعی حضرت نظام الدین اویا حضرت محمد شیخ شرف الدین بھٹی شیری کے سوانح حیات، صفات و کلاالت، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، تلامذہ اور مشتبین کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم : یمنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی راء، ۱۰۳۲ھ کی منفصل سوانح حیات، ان کا عہدہ اور رہائش، ان کے خلیفہ تجدیدی و اصلاحی کارنامے کی اصل نویسی کا بیان، ان کا اور ان کے سلسلہ کے شاخوں کا اپنی اور بعدکی صوریں پر بھر اور اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم : تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ تحدیث دہلوی، اجیائے دین، اشاعت کتاب و سنت، اسرار و مقاصد کشیریت کی توضیح و تفسیح۔ تربیت و ارشاد اور سند و ممان میں ملت اسلامی کے تحفظ اور تفسیں کے بیان کی ان عہدہ آفرین کوششوں کی رواداروں میں کا آنذاہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اخلاق و مخالف کے ذریعے ہوا۔

حصہ ششم : حضرت سید حسن شیری کے منفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور خیر نظم نہدوستان کی سب سے بڑی تحریک جہار و تنظیم اصلاح و تجدید اور احیائے فلاحات کی تاریخ۔ (دو مجلدیں میں مکمل)

ناشر: فضل ربی نوری

مجلس نشریات اسلام۔ ۲۔ نائم آباد میشن، نائم آباد، کراچی ۱۷

عصر جدید کے مادہ پرستانہ چیلنج کے جواب میں
مولانا مُحَمَّد شَابِ الدِّين نُزُلی
کے چند

حقائقہ تصانیف

♦ جدیدین و دماغ کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا جواب ♦ اسلام کی امانت
اور عالمگیری کے سائنسک لائل ♦ واضح اور تسلی بخش حقائق ♦ مسکت دہلیشیں
استدلال ♦ اور عالم انسانی کیلئے ایک لمحکری

- | | |
|--|--|
| ۱۔ چہیز | ۱۔ اسلام کی نشانہ تائیہ قرآن کی نظر میں |
| ریک فیروز اسلامی تصور جو خدا تمکن کا باہم شہجہ، | ۲۔ قرآن مجید اور زیناے حیات
(سینہ سائنس کی روشنی میں پڑھائیں) |
| ۲۔ اسلام کا قانون طلاق
وقرآن و حدیث کی روشنی میں) | ۳۔ قرآن سائنس اور اسلام |
| ۳۔ اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ | ۴۔ اسلام اور جدید سائنس |
| ۴۔ تعدد اور رواج پر ایک نظر | ۵۔ حورت اور اسلام |
| ۵۔ نکاح کتنا آسان اور کتنا مشکل
درست اسلامی شریعت کی روشنی میں ایک جائیدا | ۶۔ تخلیق آدم اور نظریہ ارتقا |
| ۶۔ جدید علم کلام | ۷۔ تین طلاق کا ثبوت |
| ۷۔ قرآن کا پیغام اور اس کے علمی اسرار و عجائب | ۸۔ اسلامی شریعت علم اور عقل کی نیزیں میں |
| ۸۔ آسان عربی (راذل - دوم) | ۹۔ آسان عربی (راذل - دوم) |

ناشر
فضل رب ندوی

فون ۶۲۸۱۶

محل نشریات اسلام اے۔ ک۔ ناظم ابادیشن، ناظم اباد را کراچی تے۔

مُفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

کی چند اہم اساتشہ کا تصنیفات

نحو و محتوا مکمل
حدیث کاظمیہ اور کربلا
سرکار ایمان و مدارست
پرانے پڑائی مکمل، «معنی»
اکان اریب
تفویض اقبال
کارروائی حدیث
متادیانت
تغیر ایامت
حدیث ای انسان
اصالیجات
سمیۃ اہل دل
کارروائی زندگی مکمل
مسبب و تهدید
دشمنوچیات
حیات بعد الموتی
دو مشاعر انصوریں
تجھیز ای انسان
یا معاشر زندگی
مالک لی کا ایب

حریخ و حربت و حربت مکمل و پوچھ
مسلم برائی میں اسلامیت اور معرفت کی علمیں
اسال، جیسا پر مسلمانوں کے حروف و نوادر کا اثر
مسبب بتوت اور انس کے مال مقام مالین
دریائے کابل سے دریائے یونہیک
ذکر و تفصیل پر رسمی فتح مردانی اور
تبلیغ و دعوت کا ہمراز اسلوب
عرب سے کیے صاف صاف ایں
انی دیا امریکی ائمہ صاف صاف ایں
جب ای انسان کی بیماری آئی
وہ ای انسان اور اُن کی بیوی و دوست
فاروقیوس اور سیدہ زینہ العرب
صریح ماضی میں ایک تغیریم و تحریک
تحریک و احسان ای تصرف و ملک
ظاہر فرقائے بہادر اصول
سوانح عیاش، الحدیث مولانا احمد رضا
خواتین اور دروز کی مددست
کارروائی ای انسان و معرفت
سوانح مولانا مسٹر المقاد، رائے پوری

بہتر، تعلیم زندگی ندوی — فون ۰۴۲۱۵۱۴-۰۴۲۰۴۹۹

مجالس نشریات اسلام، مکتبہ علم ایام ایشنا، ناہار طکر اچی ۱۶